





not to be reproduced

حصہ دوم
بارھویں
جماعت کے لیے

اکانی-III
ڈرامی
ڈرالج
ابلاع





فهرست

57	باب 1: پرنٹ میڈیا
57	تعارف 1.1
57	اخبار 1.2
58	خبر 1.2.1
59	خبرگاری 1.2.2
62	مرخی 1.2.3
62	اداری ٹکنالوژی 1.2.4
63	فچونویسی 1.2.5
64	کالمنویسی 1.2.6
65	اشتروپیو 1.2.7
66	رسائل 1.3
67	اشتہارات 1.4
70	اخباری مراسلم 1.5
72	باب 2: الیکٹریک میڈیا
72	تعارف 2.1
72	ریڈیو 2.2
73	ایف-ائیم-ریڈیو 2.2.1
74	کمیونٹی ریڈیو 2.2.2
75	ویبریڈیو 2.2.3
76	ریڈیو پروگرام 2.3
76	ریڈیو خبر 2.3.1

78	ریڈ یوچر	2.3.2
83	ریڈ یوتاک	2.3.3
83	ریڈ یوائزرویو	2.3.4
84	ریڈ یومباش	2.3.5
85	ریڈ یوجاکی	2.4
86	ٹلی ویژن	2.5
87	ٹلی ویژن پروگرام	2.6
87	ٹلی خبر	2.6.1
90	سیریل	2.6.2
93	ٹلی فلم	2.6.3
94	سینما / فلم	2.7
95	فچر فلم	2.7.1
98	دستاویزی فلم	2.7.2
99	اشتہاری فلم	2.7.3
101	شارٹ فلم	2.7.4

103	باب 3: نیومیڈیا / سوشل میڈیا	
103	تعارف	3.1
104	مقبولیت کی وجوہات	3.1.1
104	دائرة کار	3.1.2
105	معلومات کا ماغذہ	3.1.3
105	نیومیڈیا کا صحنی	3.1.4
105	صحافت بذریعہ موبائل فون	3.1.5
106	انفرادی اظہار مرکوز میڈیا	3.2
106	سوشل نیٹ ورک میں اظہار کا طریقہ	3.2.1
107	واٹس ایپ	3.2.2
107	فیس بک	3.2.3

107	لوٹر	3.2.4
107	لیٹوب	3.2.5
108	انسکرام	3.2.6
108	گوگل پس	3.2.7

باب 4: تعلیمی میڈیا

110	تعارف	4.1
110	تعلیم اور ایکٹر ایکٹ میڈیا	4.2
111	تعلیم اور ریڈ یو	4.3
113	تعلیم اور شیلی ویژن کا استعمال	4.4
114	تعلیمی شیلی ویژن پروگرام کے طریقہ کار اور اقسام	4.4.1
116	تعلیم و دریں میں کمپیوٹر	4.5
117	موک (MOOC)-ایک جدید دریکی پلیٹ فارم	4.5.1
118	آن لائن لرنگ	4.5.2
118	سوئم	4.5.3
119	سوئم پر بھا	4.5.4
119	ای-پاٹھ شالا	4.5.5
120	ای لرنگ	4.5.6



5194CH03

عوامی ذرائع ابلاغ

اکیسویں صدی انفارمیشن نیکنا لو جی کی صدی ہے۔ آج انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اسے پل کی خبریں دستیاب ہو جاتی ہیں۔ سائنس اور نیکنا لو جی کی ترقی نے پوری دنیا کو عالمی گاؤں میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ایک اطلاع کو اپنی منزل تک پہنچنے میں مہینوں اور برسوں لگ جاتے تھے لیکن آج ہم پلک چھپتے اسے موصول کر لیتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے اسارت فون میں پوری دنیا کی اطلاعات سمت آتی ہیں۔ انگلی کی ایک جبنت سے دنیا کے کسی حصے میں پیغام کو پہنچ دیا جاتا ہے اور دوسرے ہی پل یہ موصول ہو جاتا ہے۔ ہزاروں کلو میٹر دور پہنچنے کی شخص سے رو برو بات کی جاسکتی ہے۔

عوامی ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا اطلاعات اور خبروں کو عوام تک پہنچانے کا ایک طاقت و رذرا یہ ہے۔ اس کے اثرات اور طاقت کے پیش نظر ہی اسے جمہوریت کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ میڈیا، عوام اور حکومت کے درمیان رابطے کا فریضہ بھی انجام دیتا ہے۔ میڈیا عوام کی آواز ہے۔ اس سے صرف اطلاع فراہم نہیں کی جاتیں بلکہ سماجی مسائل کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے۔ میڈیا کے ذریعے ظلم و جر، نا انصافی اور بد عونی کے خلاف آواز بھی بلند کی جاتی ہے۔ عوامی ذرائع ابلاغ میں ریڈیو، ٹیلی ویژن، فلم، تھیٹر، انٹریٹ، اخبار، رسائل، کتب، پرفلٹ اور پوسٹر وغیرہ شامل ہیں۔

عوامی ذرائع ابلاغ نے نسل کو بے حد متاثر کیا ہے۔ یہ ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے اپنے خیالات اور تصورات کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کے توسط سے لوگوں کے طرز زندگی میں تبدیلیاں بھی نمودار ہو رہی ہیں۔ یہ روزمرہ زندگی کا ایک ناگزیر حصہ ہے۔ عوامی ذرائع ابلاغ کو بنیادی طور پر تین حصوں پر منقسم ہے۔ الیکٹریک میڈیا اور نیو میڈیا میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس اکائی میں میڈیا کی ان تینوں اقسام پر سیر حاصل گھنٹوں کی گئی ہے۔ ساتھ ہی تعلیمی میڈیا کو بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ انفارمیشن نیکنا لو جی کے اس عہد میں نوجوان طلباء میں تعلیمی میڈیا بے حد مقبول ہے اور طلباء اپنی سہولت کے اعتبار سے اس سے خوب فیض یاب ہو رہے ہیں۔

پرنٹ میڈیا

1.1 تعارف

زبان اور تحریر کے فروغ میں پرنٹ طباعت کی دریافت ایک بڑی کامیابی تھی۔ پندرہویں صدی میں دنیا کے مختلف حصوں میں کاغذ تیار کرنے اور روشنائی کے استعمال کی تکنیک کا فروغ ہو چکا تھا۔ سولہویں صدی کی ابتدائی ہزاروں کی تعداد میں کتابیں شائع ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد اخبارات کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اٹھارہویں صدی کے آتے آتے اخبار عوامی ذرائع ابلاغ کا ہم وسیلہ بن گیا تھا۔ طباعت کے فروغ سے معاشرتی خیالات، افکار اور احساسات پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ ہندوستان کا پہلا انگریزی ہفت روزہ اخبار 'بکیر بیگل گزٹ' یا 'مکلتہ جعل ایڈورٹائز' نام سے 29 جنوری 1780 کو جیس اکٹس بکی نے شائع کیا۔ گناہ بھٹاچاریہ نے بگلم زبان میں پہلا دیسی اخبار 'بیگل گزٹ' 1816 میں شائع کیا۔ سدا اسکھ رائے نے 1822 میں اردو کا پہلا اخبار جام جہاں نما، جاری کیا۔ اخبارات کی اشاعت کا یہ سلسلہ آج بھی قائم ہے۔ ایک مشترکہ میڈیا کی اتنی ترقی کے باوجود پرنٹ میڈیا کی معنویت اور اہمیت برقرار ہے۔ پرنٹ میڈیا میں قارئین کی خصوصی دلچسپی ہوتی ہے۔ ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر خبروں کی پیش کش میں انحصار سے کام لیا جاتا ہے جبکہ انھیں خبروں کو اخبارات و رسائل میں تفصیل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اخبار عوام تک خبری نہیں پہنچاتا بلکہ مختلف قسم کی تحریروں کے ذریعے ان کی بصیرت میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ اخبارات و رسائل میں خبر، اداریہ، کالم، مضمون اور امنڑو یو کے علاوہ فچر اور ادبی تخلیقات بھی شائع کی جاتی ہیں۔ پرنٹ میڈیا میں بنیادی طور پر اخبارات، رسائل، کتب، پوسٹر، پرفلٹ، لیف لیٹ، بر اشرا اور ہوڑ گنگ وغیرہ شامل کیے جاتے ہیں۔ پرنٹ میڈیا کی چند اہم اقسام کی تفصیل حسب ذیل ہیں:

1.2 اخبار

انسان کو ابتداء سے ہی نئی اور انوکھی چیزوں کے جاننے کا شوق رہا ہے۔ انھیں نئی باتوں، واقعوں اور حادثوں کی اطلاع کو 'خبر' کہتے ہیں۔ 'خبر' عربی کا لفظ ہے، جس کے معنی ہیں حال احوال جاننا۔ خبر کی جمع 'اخبار' ہے۔ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ خبر کے ذرائع بھی بدلتے رہے۔ پہلے انسان زبانی خبریں سنتے اور سناتے تھے، چھاپ خانے کی ایجاد کے بعد اخبار چھنے لگے۔ بیشتر اخبارات اپنی مدت اشاعت کے اعتبار سے روزنامہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سہ روزہ، ہفت روزہ اور پندرہ روزہ اخبارات بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ اپنی ضخامت، مواد اور مزانج کے لحاظ سے بھی

مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔

اخبار میں خروں کے علاوہ کئی چیزیں ہوتی ہیں مثلاً اداریہ، فچر، کالم، انٹرویو، رپورتاژ، کارٹون، مراسلے اور اشتہارات وغیرہ، عام طور سے ہر اخبار کے درمیانی صفحات کو ادارتی اور اپ ایڈ صفحے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ادارتی صفحے میں اہم موضوع، معاملے یا وقعے پر ایک یا دو اداریے شامل کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حالات حاضرہ پر دو ایک مضمون شائع ہوتے ہیں۔ اسی صفحے پر قارئین کے خطوط بھی چھاپے جاتے ہیں۔ ادارتی صفحے کے مقابل صفحے کو اپ ایڈ صفحے (Op-ed, opposite of Editorial) کہا جاتا ہے۔ اس صفحے پر ماہرین کی رائے اور مضمایں شائع کیے جاتے ہیں۔ مستقل کالم بھی عموماً اسی صفحے پر شائع ہوتے ہیں۔



اکثر اخبارات صیہے بھی شائع کرتے ہیں۔ اہم موقعوں کے علاوہ بیش تر اخبارات ہفتہ کے کسی مخصوص دن مثلاً ہفتہ اور اتوار کے روز صیہے نکالتے ہیں۔ ان صیہموں میں موقع کی مناسبت سے خبریں، مضمایں، اطلاعات اور اشتہارات شائع کیے جاتے ہیں۔ ہفتہواری صیہموں میں مختلف موضوعات پر فچر اور تحقیقی مضمایں شامل کیے جاتے ہیں۔ لیکن اخبار کی سب سے اہم اور بنیادی چیز خبر ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں سب سے پہلے خبرنگاری کی تفصیلات پر بات کی جائے گی۔

1.2.1 خبر

اخبار کی سب سے اہم اور بنیادی چیز خبر ہیں۔ کسی اہم واقعے، معاملے یا حادثے کی تازہ ترین اطلاعات خبر کھلائی ہیں جن سے اخبار کے قارئین کو دلچسپی ہو اور وہ ان کے لیے بروقت مہیا ہو۔ تازہ واقعات، حادثات اور مسائل نیز ان پر رذ عمل، اطہار خیال اور بیان کی غیر جانب دارانہ پیش کش کا نام خبر ہے۔ اس طرح سے دیکھیں تو تازگی، نیاپن، محل، دلچسپی، راست یا بیان، معروضت، سادہ بیانی، اختصار، غیر جانب داری وغیرہ خبر کے اہم عنابر ہیں۔

عوامی ذرائع ابلاغ

ان کے بغیر خبر کی وقعت اور افادیت کم ہو جاتی ہے۔ خبر کو درست، معرفی، مرتکز، جامع، مختصر اور واضح ہونا چاہیے۔

خبر تیار کرتے وقت عموماً ”چھے کاف“ کے اصول کو بروئے کار لایا جاتا ہے جو درج ذیل ہیں:

- (i) کیا؟ (What) کیا واقعہ پیش آیا؟
- (ii) کہاں؟ (Where) کہاں (جگہ/ مقام) واقعہ پیش آیا؟
- (iii) کب؟ (When) واقعہ کب رونما ہوا؟ (وقت)
- (iv) کون؟ (Who) کس کے ساتھ واقعہ پیش آیا؟
- (v) کیوں؟ (Why) واقعہ کیوں رونما ہوا؟ (سبب/ علت)
- (vi) کیسے؟ (How) واقعہ کیسے رونما ہوا؟

انگریزی میں اس کو پانچ ڈبلیو (W) اور ایک ایچ (H) کا اصول کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک اچھی خبر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیا بات ہوئی یا کیا واقعہ یا حادثہ رونما ہوا، کس جگہ پر ہوا، کس وقت ہوا، کس کے ساتھ پیش آیا، واقعہ رونما ہونے کی وجہات کیا تھیں، پورا واقعہ کس زمانی ترتیب کے ساتھ یا کیسے واقع ہوا۔

❖ خبر کے ذرائع

اخبار کو خبریں دو طرح سے حاصل ہوتی ہیں۔ ایک خبر رسان ایجنٹی سے اور دوسرا سے اپنے نامہ نگاروں سے۔ اخباروں کی زیادہ تر خبریں خبر رسان ایجنٹیوں کی فراہم کردہ ہوتی ہیں۔ تقریباً تمام ممالک میں سرکاری، نیم سرکاری یا خجی خبر رسان ایجنٹیاں ہوتی ہیں۔ روئیس (REUTERS) دنیا کی ایک قدیم خبر رسان ایجنٹی ہے۔ فرانس کی خبر رسان ایجنٹی AFP بھی بہت مشہور ہے۔ ہندوستان کی سب سے بڑی اور اہم خبر رسان ایجنٹی PTI (پریس ٹریسٹ آف انڈیا) ہے۔ UNI (یونائیٹڈ نیوز آف انڈیا) بھی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ چند بڑے اخبارات نے اپنی نیوز ایجنٹیاں بھی قائم کی ہیں۔ مقامی اور علاقائی خبریں حاصل کرنے کے لیے اخبارات اہم شہروں اور علاقوں میں اپنے نمائندے تعینات کرتے ہیں۔ یہ نمائندے اپنے علاقے کی خبریں اخبار کو پابندی سے بھیجتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہم ملکی اور بین الاقوامی وقوعے کی بہتر پوشش کے لیے اخبارات اپنے نمائندوں کو وہاں بھیجتے ہیں۔ مثلاً اولپکس یا ولڈ کپ کی کوریج (Coverage) کے لیے بڑے اخبار اپنے نمائندوں کو وہاں بھیجتے ہیں جہاں یہ مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ ان نمائندوں کو صحافت کی زبان میں ”نامہ نگار“ کہا جاتا ہے۔ نامہ نگاری ایک پیشہ و رانہ نہ ہے اور مختلف یونیورسٹیوں میں جرnlزم کے کورس کی تعلیم دی جاتی ہے۔

1.2.2 خبرنگاری

خبرنگاری ایک پیشہ و رانہ نہ ہے۔ تربیت اور مشق سے خبرنگاری میں مہارت آتی ہے۔ خبر کی زبان، علمی و ادبی زبان سے مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے نامہ نگار کو صحافتی زبان پر اچھی گرفت ہونی چاہیے۔ خبرنگاری کے دوران ”چھے کاف“ کے اصول کی پاسداری کرنی چاہیے۔ قطعیت (Accuracy)، انحصار (Brevity) اور وضاحت (Clarity) کو

خبرنگاری کا ABC کہا جاتا ہے۔ یعنی خبر میں قطعیت ہونی چاہیے، مہم بات کی اس میں گنجائش نہیں ہوتی۔ نیز خبر میں اختصار ہونا چاہیے اور غیر ضروری باتوں سے گریز کرنا چاہیے لیکن یہ اختصار ایسا نہ ہو کہ تشکل کا احساس باقی رہ جائے بلکہ خبر میں واقعہ کی وضاحت ہونی چاہیے۔ خبر لکھنے وقت درج ذیل نکات کو پیش نظر رکھنا چاہیے:

• قرب زمان و مکان

عموماً پچھلے چوبیں گھنٹے میں رونما ہونے والے واقعات ہی خبر بنتے ہیں۔ اس سے پرانے واقعات تب اخبار کی زینت بنتے ہیں جب ان کا کوئی نیا پہلو سامنے آجائے۔ قاری اپنے آس پاس کے علاقے کی خبروں کو زیادہ دلچسپی سے پڑھتے ہیں۔ ایک ہی طرح کے دو واقعات اگر دو علاقوں میں رونما ہوتے ہیں تو قاری کے لیے وہ واقعہ زیادہ دلچسپی کا حامل ہوتا ہے جو ان کے قرب و جوار میں ہوا ہو۔ ایسی صورت میں قاری اس خبر کو زیادہ تفصیل سے پڑھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔



• تازگی اور نیا پکن

معمول اور روزمرہ کے واقعات خبر نہیں بنتے۔ ایسے تازہ واقعات ہی خبر بنتے ہیں جن میں کچھ نیا پن ہو یا وہ معمول سے بہت کروہوں۔

• خبر کی طوالت

خبر کی طوالت کتنی ہونی چاہیے؟ اس کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ طے کرنا مشکل ہے۔ اس کا انحصار واقعہ کی اہمیت اور نوعیت پر ہوتا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خبر اتنی مختصر نہ ہن جائے کہ تشکل کے لئے رہ جائے اور نہ اتنی طویل ہو جائے کہ ہن پر بوجھ ہن جائے۔

• معروضت اور غیر جانب داری

خبرنگاری میں معروضت اور غیر جانب داری ضروری ہے۔ ذاتی تاثرات، ترجیحات اور تعصبات کو خبر میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ واقعات کو بغیر کسی لالگ لپیٹ کے جوں کا توں پیش کرنا چاہیے تاکہ قاری تک اصل خبر پہنچ سکے۔

• توازن

خبر کے مختلف حصوں میں توازن رکھنا خبر کو لاکش بنتا ہے۔ خبر کی سرخی، تہید، تفصیل، اختتامیہ وغیرہ میں ربط و توازن ہونا چاہیے۔

❖ خبرنگاری کی تکنیک

زبان اطہار کا موثر ترین وسیلہ ہے۔ ہمیں کیا کہنا ہے، کس سے کہنا ہے اور کس مقصد کے لیے کہنا ہے، یہ تینوں امور طے کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کی تکنیک اور زبان استعمال کرنی چاہیے۔ عام طور پر خبر لکھنے کے درج ذیل طریقے ہیں۔

• المانیا (Inverted Pyramid)

اس طریقے میں خبر کا اہم ترین حصہ سب سے پہلے لکھا جاتا ہے۔ یعنی سب سے اہم بات پہلے پیراگراف میں لکھی جاتی ہے، دوسرے پیراگراف میں اس سے کم اہم بات اور پھر اس کے بعد اس سے کم اہم بات۔ ابتدائی سطروں میں ہی خبر کو

عوامی ذرائع ابلاغ

پوری جامعیت سے بیان کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ضروری تفصیل دی جاتی ہے۔ بیشتر اخبارات اسی طریقے کو اپناتے ہیں۔



• خلاصہ (Summary)

اس تکنیک کے تحت کسی وقوع کے اہم نکات کو جامع انداز میں مربوط کر کے خلاصے کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس تکنیک میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ خبر سے متعلق قاری کے ذہن میں پیدا ہونے والے تمام سوالات کے جواب خبر میں ہی مل جائیں۔

• سلسلہ وار بیان (Chronological Narrative)

بعض حالات و واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ قاری کو ذہن نشین کرنے کے لیے خادشے یا واقعے کو اسی ترتیب سے بیان کیا جاتا ہے جس طرح وہ واقع ہوئے ہیں۔ اس میں واقعات کو وقت اور تاریخ کی سلسلہ وار ترتیب سے بیان کیا جاتا ہے۔

• معطل دلچسپی (Suspended Interest)

یہ تکنیک معموس مسئلہ کے بر عکس ہے۔ اس تکنیک میں خبر کا آغاز تجسس خیز انداز میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ توجہ اور دلچسپی کے عناصر کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور خبر کی سب سے اہم اور دلچسپ بات سب سے آخر میں بیان کی جاتی ہے تاکہ قاری کی دلچسپی خر میں آخر تک برقرار رہے۔

خبر نگاری کی ان تکنیکوں میں اٹا اہرام کی تکنیک کو سب سے بہتر تصور کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ عوام کو خبر کے نتیجے اور حاصل کو جاننے میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔

❖ خبر کی زبان

- (i) خبر کی زبان واضح اور راست ہونی چاہیے۔
- (ii) زبان و بیان آسان اور سلیمانی ہونا چاہیے۔
- (iii) خبروں کو عام بول چال کی زبان میں لکھا جانا چاہیے تاکہ ہر علیمی سطح کے لوگ اسے سمجھ سکیں۔
- (iv) خبر میں ناماؤں اور مشکل الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔
- (v) جملے اور پہر اگراف چھوٹے ہونے چاہیے۔
- (vi) خبر میں مبالغہ آمیز الفاظ املا شدید، خطرناک وغیرہ کامن سے کم استعمال کرنا چاہیے۔

1.2.3 سرفی

خبر کے لیے سرخیاں بے حد اہم ہوتی ہیں۔ خبر کے اوپر سرفی لگائی جاتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ خرکس چیز کے بارے میں ہے۔ سرفی خبر تک قاری کی رہنمائی کرتی ہے۔ سرفی کی وجہ سے ہی کوئی خبر قاری کی توجہ حاصل کرتی ہے، اس لیے سرفی لگاتے وقت ذہانت اور لسانی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اخباروں میں کئی طرح سے سرفی لگائی جاتی ہے۔ بعض خبروں پر ایک سطری تو بعض پر دو تین سطوروں کی سرفی لگائی جاتی ہے۔ جب دو تین سطوروں کی سرخیاں لگائی جاتی ہیں تو ان میں سے ایک سطر کو جلی حروف میں لکھتے ہیں جسے جملی سرفی یا شہ سرفی کہتے ہیں۔ دوسری سطر کو نہیں کم جلی حروف میں لکھتے ہیں جسے ذیلی سرفی کہتے ہیں۔ جب ایک سے زیادہ سطوروں میں سرخیاں لگائی جاتی ہیں تو صرف ایک شہ سرفی لگائی جاتی ہے جب کہ ذیلی سرفی دو لگائی جا سکتی ہیں۔ اس طرح کل ملا کرتیں سرخیاں ہو جاتی ہیں، ایک شہ سرفی اور دو ذیلی سرفی۔ عام طور سے تین سے زائد سرخیاں نہیں لگائی جاتی ہیں۔ شہ سرفی اور ذیلی سرخیوں کے لگانے کے مختلف طریقے راجح ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے شہ سرفی اور اس کے نیچے ایک یا دو ذیلی سرخیاں۔ دوسری طریقہ یہ ہے کہ پہلے ذیلی سرفی پھر شہ سرفی اور پھر ذیلی سرفی۔ طریقہ خواہ کوئی بھی ہو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ذیلی سرخیاں ہمیشہ شہ سرفی کی وضاحت اور توسعہ کے لیے لگائی جاتی ہیں۔

ڈھونی کی زبان

سرخی میں مکمل جملے نہیں لکھتے جاتے ہیں۔ سرفی کو دلچسپ اور کپڑش بنانے کے لیے زبان کی ساخت روزمرہ زبان کی ساخت سے مختلف ہو سکتی ہے۔ ایک مثال دیکھیے

ڈھونی کی شاندار بیانگ، ہندوستان بینا عالمی چمپئن

اسے اگر جملے یا روزمرہ ساخت میں لکھتے تو کچھ اس طرح لکھتے:

ڈھونی کی شاندار بیانگ کی بدولت ہندوستان عالمی چمپئن بنا

شاستری کو تو سبع دی جائے گی یا بی سی آئی اشتہار دے گا؟
تم اندیا کے کوچ اور کوچنگ استاف کا کنٹریکٹ عالمی کپ تک

1.2.4 اداریہ ٹگاری

اداریہ کسی اخبار کی فلکر کا ترجمان ہوتا ہے۔ یہ اخبار کی ایک اہم اور معنی تحریر ہوتی ہے۔ ہر اخبار میں اس کے لیے خاص صفحی مخصوص ہوتا ہے جسے ادارتی صفحہ کہا جاتا ہے اور اس صفحہ پر وہ جگہ بھی متعین ہوتی ہے جہاں اداریہ شائع کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی کسی ہنگامی صورت حال یا خبر کی اہمیت اور سنگینی کے پیش نظر اسے پہلے صفحہ پر بھی شائع کیا جاتا ہے۔ اداریہ عام طور سے ایک کالم کا ہوتا ہے اور اس میں حالات حاضرہ کے کسی اہم مسئلے، موضوع یا راجحان پر مکمل، منضبط اور مؤثر تحریر ہوتی ہے۔ اداریہ مدیر کی جانب سے لکھا جاتا ہے۔ بعض اخبارات میں دو یا تین الگ الگ موضوعات پر ایک ہی کالم میں مختلف عنوانات کے تحت اداریہ شائع کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات اداریے میں اخبار سے وابستہ



گرستہ
دوں تین دنیا میں سماں کا فخر کا انتشار انتشارے
اہم اتفاقوں کے باس میں قلبیں کے سینے پر مجھی حرکت کی
ادارہ کا فخر کا درود ان کی ایسی جایجو بیان ہوئیں کہ جن
پر اکابر علم اسلام ایجاد کی اور محقق دینے سے سرگلہ مسئلہ قلبیں سائیں
جس مدد حلتی ہے اور سلسلہ دینی کا پلکا ہے۔

مسجد قصیٰ کانفرنس اور عالم اسلام

کچھ افراد مخصوص موضوع کے کسی ماہر کی رائے بھی شامل کی جاتی ہے۔ اداریہ اخبار کی پالیسی کو ذہن میں رکھ کر تحریر کا جاتا ہے۔

اداریے کی زبان اور مودا کی پیش کش خبر اور اخبار کی دوسری تحریروں سے مختلف ہوتی ہے۔ چوں کہ اداری، اہم حالات اور مسائل پر انتہائی غور و فکر کے بعد پوری ذمے داری کے ساتھ لکھی ہوئی تحریر ہوتی ہے، اس لیے اسے لکھنے کے لیے بالغ نظری اور سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اداری، اخبار کے ایسے قاری کو ذہن میں رکھ کر تحریر کیا جاتا ہے جس کی حالات حاضرہ پر ظہر ہو اور وہ کسی مسئلے اور اس کے سیاق و سبق سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہو۔ اداریے میں عموماً کسی خاص مسئلے یا موضوع کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اداریہ نگار کسی بڑے واقعے یا سانچے کی تشریع کرتا ہے، کسی سرکاری یا نیم سرکاری فیصلے سے ملک کی سیاسی، سماجی اور معماشی زندگی پر اثر انداز ہونے والے پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ اداریہ عوامی ذہن میں پیدا ہونے والے کئی سوالات کا جواب بھی ہوتا ہے۔ اداریے میں کسی تجویز کا خیر مقدم ہو سکتا ہے اور اگر کوئی منصوبہ ملک و قوم کے لیے تقصیان وہ نظر آئے تو اس کی نشان وہی کی جاسکتی ہے، کوئی مطالبہ کیا جاسکتا ہے، مختلف اقدامات پر سوال اٹھائے جاسکتے ہیں، کسی خاص روئے کی سفارش کی جاسکتی ہے اور جائز مطالبات بھی کیے جاسکتے ہیں۔ مدیریہ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ کسی خاص سیاسی یا سماجی مسئلے یا معاملے پر ملک اور حکومت کو کیا موقف اختیار کرنا چاہیے۔

زبان کی شائٹگی اور معیار کی پاسداری اداریے کو موثر اور دلچسپ بناتی ہیں۔ اداریے لکھتے وقت طوالت سے پرہیز کرنا چاہیے۔

فیچرنویسی 1.2.5

فچر ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جس میں کسی خبر، واقعہ، شے، شخص یا ادارے کے لگنام، دلچسپ اور انوکھے پہلوؤں پر مشتمل ہے اندماز میں روشنی ڈالی جاتی ہے اور فچر زنگار اپنے مشاہدات اور معلومات کو بہت ہی دلچسپ انداز میں بیان کرتا ہے۔ فچر

نہ تو خبر ہے، نہ مضمون اور نہ ہی اسے انشائیہ کہہ سکتے ہیں۔ فچر میں مضمون کی طرح ممتد ہو اے، اعداد و شمار اور تحقیقی مواد کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی۔ مضمون میں علیمت اور سنجیدگی کے عناصر ہوتے ہیں جب کہ فچر میں تفریح اور دلچسپی کو بنیادی حیثیت دی جاتی ہے۔ اس میں انشا پردازی کے اصولوں پر بنیت سے عمل کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ فچر میں انشائیہ کی مانند بات سے بات پیدا نہیں کی جاتی ہے بلکہ ایک ہی بات یا ایک ہی کیفیت پر پوری توجہ صرف کی جاتی ہے۔ اختصار و ایجاد فچر کی روح ہیں۔ ایک اچھا فچر لکھنے کے لیے بہت زیادہ علیمت کے بجائے بعض گردآؤد حقائق کی نشان دہی، کسی گم نام کڑی کے اکٹھاف، موضوع کے دلچسپ پہلوکو جاگر کرنے، ذاتی مشاہدات اور سیاستی باتوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا ایک تخلیقی عمل ہے۔ اور اس کے انداز بیان میں شوفی اور شفقتی ہونی چاہیے۔ ایک اچھا فچر دلکش، دلچسپ اور سرت بخش ہوتا ہے۔

❖ فچر کی تیاری

زندگی اور مشاہدے میں کئی ایسے موقع آتے ہیں جن سے مواد حاصل کر کے ایک اچھا فچر لکھا جا سکتا ہے۔ مثلاً یوم جمہوریہ، یوم آزادی، رکشا بندھن، عید، کرسمس، گرو گومند پرو، امبیڈ کر جینتی، پسندیدہ شخصیت، دلچسپ سفر، انوکھی خبر، چونکا دینے والی بات وغیرہ جیسے موضوعات پر فچر لکھا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو با غبانی بولو گرانی یا موسیقی سے دلچسپی ہو تو ان موضوعات پر بھی اچھا فچر لکھا جا سکتا ہے۔ فچر میں روایتی معلومات سے ہٹ کر کچھ نئے گوشوں اور دلچسپ پہلوؤں کو جاگر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسے ایک عام ہلکے مضمون کی طرح لکھنا چاہیے، جیسے کوئی دلچسپ معلوماتی اور مزے دار نتیجہ کرتا ہے۔ خیال رہے کہ اس میں اصطلاحات اور بھاری بھرم الفاظ کے استعمال کی ضرورت نہیں، بس بات میں خوش بیانی اور شفقتی ہو۔

ایک فچر زگار کا یہ واقعہ سینے جس سے فچر لکھنے کے فن سے متعلق بہت کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس فچر زگار کو یہ بتا چلا کہ نہرو غاندھان کی آبائی جو یاں آندہ بھون کے ایک باورچی کو بھی وجہ لکھنی پذیرت کے ساتھ روئی جانے کا موقع ملا تھا۔ اس نے سوچا کہ روئی کے بارے میں سیاست داں، ادیب، شاعر، فلم اشارا اور اہم شخصیات کے بیانات اور خیالات کو لوگ اخباروں میں پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ اس لیے کیوں نہ اس باورچی سے ملاقات کر کے یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ روئی کے بارے میں ایک باورچی کے کیا خیالات ہیں اور یہ کہ اس نے روئی کو کس نظر سے دیکھا۔ چنانچہ اس صحافی نے آندہ بھون کے باورچی بدمی سے ملاقات کی اور اس کے مشاہدات کو بنیاد بنا کر ایک فچر لکھا۔ جس کا عنوان تھا "اسکو پلٹ باورچی"۔ اس فچر کو لوگوں نے دلچسپی سے پڑھا اور اسے بڑی مقبولیت ملی۔

1.2.6 کالم نویسی

کالم نویسی کو جدید صحافت میں ایک باضابطہ فن کی حیثیت حاصل ہے۔ اداریے کی طرح کالم بھی اخبار کی شناخت قائم کرنے میں اہم روول ادا کرتے ہیں۔ خبر کے پیچھے کی خبر جاننے کے بھس نے ایک عام رمحان کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اس کے نتیجے میں قارئین ہر معاملے، مسئلے اور واقعہ کے پس منظر اور ان کے نتائج سے واقف ہونے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ قارئین کے اس تجسس اور خواہش کی تکمیل کے لیے کالم نویس اپنے تدریب، تجربے، ذہانت اور



خواجہ احمد عباس (1914-1987)

سیاسی و سماجی سوچھ بوجھ سے معاملات کی تہوں کو کھولتے اور ان کے مختلف پہلوؤں کو روشن کرتے ہیں۔ کالم، خیالات کے اظہار کا ایک اہم اور موثر وسیلہ ہے۔ کالم کے ذریعے کالمنوں اپنے خیالات پوری بے باکی اور وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ کبھی وہ اعلانیہ طور پر اپنی بات اور رائے پیش کرتا ہے تو کبھی اشاروں کنایوں میں۔ اس کی تحریروں میں عام طور سے غور و فکر کی دعوت اور دراندیشی کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ وہ حالات و واقعات پر تصریح کرتا ہے اور ان کی تشریح بھی۔ وہ قومی اور مین الاقوامی حالات اور معاملات و مسائل کا گہرائی سے جائزہ لے کر قارئین کو ان کے مختلف اور مختلف جگہ سے روشناس کرتا ہے۔ کالمنوں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کسی نظریے کی تشہیر نہیں کرتا بلکہ عوام کو حساس، باخبر اور بیدار بناتا ہے۔ اس لیے کالمنوں کو دیانت دار، حق پرست، غیر جانب دار اور ذمہ دار ہونا چاہیے۔

کالم میں سیاسی، سماجی، معاشری اور تہذیبی معاملات کو سنجیدگی سے پیش کرنے کے علاوہ بعض واقعات و معاملات کو مزاجیہ اور ہلکے انداز میں بھی پیش کیا جاسکتا ہے۔ کالم صرف سیاسی و سماجی موضوع پر ہی نہیں بلکہ کسی بھی موضوع مثلاً ادب، فلم، تکنیک، موسیقی، ماحولیات، سماجیات وغیرہ پر مسلسل لکھے جاسکتے ہیں۔

مزاجیہ کالم میں شائقی، زندہ ولی، پرطف زبان اور شگفتہ اسلوب کو قارئین پسند کرتے ہیں۔ البتہ مزاجیہ کالم میں زیادہ اختیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مزاج ایک خاص سٹل سے خچے اور ایک خصوص حد سے آگے بڑھ جائے تو مذاقی سلیم پر گراں گزرتا ہے، جسے قارئین پسند نہیں کرتے۔ کالم اپنے موضوع اور مزاج کے پیش نظر مختلف طرح سے لکھتے جاتے ہیں۔ بعض کالم بہت ہی سادہ اور عام فہم زبان میں تحریر کیے جاتے ہیں اور بعض شستہ ادبی زبان میں۔ کسی کالم کا انداز بیان سنجیدہ ہوتا ہے تو کسی کا مزاجیہ۔ کچھ کالم مقصدی اور معلوماتی ہوتے ہیں تو کچھ جذباتی اور زندگی سے بھر پور۔

کئی کالمنوں نے اپنے علم، صلاحیت، سوچھ بوجھ اور طرز بیان کے سبب بڑی مقبولیت حاصل کی ہے۔ انھیں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ بعض معاملات پر ان کی رائے اس قدر اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ حکومت اپنے فیصلوں میں ان کی رائے کو بھی پیش نظر کرتی ہے۔ ان میں خوشنوت سنگھ، خواجہ احمد عباس اور کالمدیپ نیر قابل ذکر ہیں۔

1.2.7 انٹرویو



اداریہ نگاری اور کالمنوں کی طرح انٹرویو بھی ایک فن ہے۔ صحافت میں انٹرویو کے معنی ہیں کسی منتخب شخص سے رسمی سوالات پوچھ کر اس کے جوابات حاصل کرنا۔ باضابطہ انٹرویو کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس کے کچھ اصول متعین ہیں۔ مثلاً انٹرویو کا وقت اور مقام پہلے طے کر لیا جاتا ہے، انٹرویو دینے والے شخص کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ کس سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ بعض اوقات پوچھے جانے والے سوالات لکھ کر اٹھیں پہلے ہی بھیج دیے جاتے ہیں۔

صحافی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی بھی شخص کا انٹرویو لینے سے پہلے اس کے بارے میں مختلف ذرائع سے کامل معلومات حاصل کر لے۔ آج کل بیشتر اہم شخصیات اور ان کے کارناموں سے متعلق معلومات انٹرویو پر موجود ہوتی ہیں۔ سوالات کی ترتیب کو لخون رکھنا چاہیے اور انٹرویو کے دوران نے سوالات بھی پوچھے جاسکتے ہیں۔ گفتگو

خوشنگوار ماحول میں ہونی چاہیے۔ انٹرویو دینے والے کو گفتگو کا موقع زیادہ فراہم کیا جائے۔ انٹرویو لینے والے کو صبر و تحمل اور خوش غلظت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انٹرویو لینے والا غیر جانب دار، ہوا اور کسی شخصیت سے مرعوب انٹرویو دینے والے کوئی جواب کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے۔

ہر شخص سے انٹرویو لینے کے طریقے اور اس کے لیے تیار یوں کی ضرورت مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً کسی مشہور ادیبی شخصیت، فلم اداکار، بڑے صنعت کار، اہم سیاسی رہنماء سے انٹرویو کے لیے گفتگو کا سلیقہ، بات چیت کا الجھ، سوالات کی نوعیت اور چھرے کے تاثرات وغیرہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تب ہی ایک صحافی کسی شخص سے ایک اچھا اور دلچسپ انٹرویو لے سکتا ہے۔


❖ انٹرویو کیسے قلم بند کریں

ظاہر ہے کہ اخباری ملاقات یا انٹرویو کا مقصد اسے شائع کرنا ہے، اس لیے اسے تحریری جامہ پہنانا لازمی ہوتا ہے۔ پورا انٹرویو یا اس کی رواداد انٹرویو لینے والے شخص کو ہمی تحریر کرنی چاہیے تاکہ اس کی اہمیت، سلاست اور شفافشی قائم رہے۔ دوسرا اہم تحریریوں کی طرح انٹرویو کا ابتدائی بھی اہم، دلچسپ اور توجہ طلب ہونا چاہیے۔ اسے تخلیقی ہمدردی سے سنوارا جائے تو زیادہ بہتر ہو گا۔ پہلے پیر اگراف میں انٹرویو کے سب سے اہم یاد دلچسپ حصے کو شامل کرنا چاہیے۔ انٹرویو میں جگہ، مقام اور وقت کے بارے میں ضرور اشارہ کر دینا چاہیے، یہ اطلاع بھی دیتی چاہیے کہ یہ ملاقات پہلے سے طبقی یا اتفاقی طور پر پیش آئی۔ انٹرویو باعوم و دریقوں سے لکھے جاتے ہیں۔ ایک تو سوال جواب کی صورت میں اور دوسرا سوال وجواب کے مقابل و واقعات کو ایک دلچسپ مضمون کی شکل میں۔ مضمون کی صورت میں لکھے گئے انٹرویو میں ایک ادبی اور تخلیقی شان ہوتی ہے۔ اس طرز تحریر کو قاری عام طور پورا پڑھتا ہے اور پڑھنے کے دوران اس کی دلچسپی مجرور نہیں ہوتی۔ انٹرویو اس طرح لکھا جانا چاہیے کہ پڑھنے والے کو محسوس ہو کہ وہ بھی دو ران گفتگو وہاں موجود تھا۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ انٹرویو میں وہ تمام باتیں شامل کی جائیں جو دوران گفتگونوٹ یا ریکارڈ کی گئیں۔ انٹرویو کی اشاعت کا موقع محل بھی خاص اہمیت رکھتا ہے جس کا فیصلہ صحافی کو بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔

سوال و جواب کی صورت میں لکھے جانے والے انٹرویو میں قارئین کی دلچسپی کا خیال رکھنا چاہیے۔ کوشش یہ ہو کہ سوال و جواب خشک نہ ہوں۔ بعض انٹرویو اتنے دلچسپ اور معلوماتی ہوتے ہیں کہ انٹرویو دینے والے شخص کی زندگی کے اہم پہلوؤں کو جاگر ہو جاتے ہیں۔ انٹرویو لینے والا کوشش کرتا ہے کہ قاری کی دلچسپی ہر حالت میں قائم رہے۔

1.3 رسائل

رسالے کی نوعیت اور اس کا مزاج اخبار سے کافی مختلف ہوتا ہے۔ رسالے کی خامات، اشاعت کے دورانیے، اس میں شامل مواد اور ترتیب کے تقاضے و نہیں ہوتے جو اخبار کے ہوتے ہیں۔ اخبار عارضی نوعیت کے ہوتے ہیں، اس میں فوری مسائل پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ جب کہ رسائل میں مستقل مزاجی پائی جاتی ہے اور اس کے قارئین کا ایک منتخب حلقہ ہوتا ہے اس لیے اس میں شامل مواد اور اس کی زبان و بیان قارئین کے حلقے کے مزاج و معیار کے مطابق رکھی جاتی ہے۔



عوامی ذرائع ابلاغ



مصنوعات، مزاج اور جوانات کے اعتبار سے رسالوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ مثلاً ادبی، مذہبی، علمی اور اصلاحی، فلسفی، طبی، سیاسی، تحقیقی اور تفریحی رسالے وغیرہ۔ اسی طرح خواتین کے رسالے، نوجوانوں کے رسالے اور بچوں کے رسالے بھی شائع ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے موضوعاتی رسالوں میں موضوع سے متعلق زیادہ چیزیں شامل ہوتی ہیں، تاہم ان میں دوسرے مواد کو بھی جگہ دی جاتی ہے۔ بعض رسائل ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں تمام موضوعات کو شامل کیا جاتا ہے۔ مثلاً ادب، تحقیق، تقدیم، فلم، رقص، موسیقی، ڈرامے، ترجمے اور سیاست وغیرہ۔

بچوں کے رسالوں میں قلمی دوستی کے کالم، سوال و جواب کے کالم، کارٹونی کہانیاں، بچوں کی تخلیقی تحریروں کے کالم اور معنوں کے کالم وغیرہ کو خاص طور پر جگہ دی جاتی ہے۔



اشتہار عوامی معلومات کا ایک ذریعہ ہے۔ اس میں مصنوعات کی خصوصیات بیان ہوتی ہیں۔ اکثر اوقات سائز، رنگ، قیمت، اور انھیں حاصل کرنے کے طریقے بھی درج ہوتے ہیں۔ تجارتی مقاصد کے علاوہ اشتہار کا استعمال سرکاری منصوبوں کو عوام تک پہنچانے، ملازمت کی اسمائی اور عوامی تحفظ و تعاون کے کاموں کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ جیسے خون اور آنکھوں کے عطیے کے لیے، شہر کو صاف رکھنے کے لیے، مختلف تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے، یہاں تک کہ جلسے، جلوس کی اطلاع اور نظریات کے فروغ کے لیے بھی اشتہار کی مدد دی جاتی ہے۔ مطبوعہ اشتہار کی کئی قسمیں ہیں۔ مثلاً پوستر جنہیں بالعموم دیواروں پر چپاں کیا جاتا ہے، ہوڑگی جنہیں سڑکوں کے کنارے یا کسی اوپرچے اور نمایاں مقام پر آؤزیں کیا جاتا ہے، ہینڈ بل جنہیں بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر تقسیم کیا جاتا ہے یا اخبار میں رکھ کر گھروں میں پھیجا جاتا ہے، لیکن یہاں اخباری اشتہار کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔

اشتہار کا بنیادی مقصد عوام کو متوجہ کرنا ہوتا ہے اس لیے اخباری اشتہارات کی زبان دلکش، تخلیقی، ترغیبی، روان اور شگفتہ ہونی چاہیے، تاکہ لوگ دلچسپی سے پڑھیں، یا اس کی طرف مائل ہو سکیں۔

♦ اشتہار کی تیاری

خبروں میں عام طور سے تین قسم کے اشتہارات شائع ہوتے ہیں۔ درجہ بند اشتہار (Classified Advertisement)، تصویری درجہ بند اشتہار (Display Classified Advertisement) اور تصویری اشتہار (Display Advertisement) والے اشتہارات۔ مذکورہ اشتہارات کو لکھنے یا تیار کرنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔

♦ درجہ بند اشتہار (Classified Advertisement)

درجہ بند اشتہار سب سے عام اشتہار ہوتے ہیں۔ یہ اشتہار بہت آسانی سے اور براہ راست شکل میں صرف اطلاع دیتے ہیں۔ یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان میں تصاویر اور رنگوں کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ ایسے اشتہاروں کی سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ مخصوص سرخیوں کے تحت آپس میں سٹے ہوتے ہیں۔ یہاں قسم کے اشتہاروں کو ایک ساتھ ایک مخصوص گروپ کا لام کے تحت رکھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ انھیں درجہ بند کیا جاتا ہے۔ درجہ

بنداشتہار میں شادی بیاہ، کرائے کے مکان، گشیدہ کی تلاش، ایکس چینچ آفر، پرائیویٹ ڈپینسری، تعلیمی ادارے اور ٹیوشن یوزروں وغیرہ کے اشتہار دیے جاتے ہیں۔ اشتہار دہندا، درجہ بنداشتہاروں کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب انھیں صرف اطلاع دینی ہوتی ہے۔ ایسے اشتہاروں میں اطلاعات کی بہت سی ہوتی ہے اور طرز تحریر بھی سلیس، جاذب اور اطلاعات سے پُر ہوتی ہے۔ تقریباً سبھی درجہ بنداشتہار ایک کالم میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایسے اشتہارات میں قاری کی ذاتی دلچسپی ہوتی ہے۔ وہ اپنی دلچسپی اور ضرورت کے مطابق اشتہاروں کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ لہذا ان میں تصاویر اور مرغوب عناصر کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اخبارات و رسائل میں درجہ بنداشتہاروں کو کچھ اس طرح متفہم کیا جاتا ہے کہ قاری کو انھیں تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے۔ مثلاً شادی بیاہ کے اشتہاروں کو حروف کے اعتبار سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ اکثر اخباروں میں ایک مکمل صفحہ درجہ بنداشتہاروں کے لیے مختص ہوتا ہے۔ درجہ بنداشتہار، طبائعی اشتہار سازی کی سب سے پرانی شکل ہے۔ اخبارات میں زیادہ تر درجہ بنداشتہار ہوتے ہیں۔ ایسے اشتہار کسی سرخی، تصویر اور سماواث کے بغیر ایک کالم میں پچھائے جاتے ہیں۔ ایک مثال دلکشی سے جس میں کرایے کے لیے خالی کے عنوان کے تحت ایک اشتہار لکھا گی ہے۔

”بجوبی دہلی میں دو کمروں اور ایک ڈرائیور روم پر مشتمل
تلیٹ۔ فرنچپر اور ساز و سامان سے آرائشہ، دونوں کمروں
میں بالکل، پارک کی جانب ایک کھڑی کھلتی ہے، دو
لوانٹ، ایک بیٹر روم سے ملحقہ، پارکنگ اور لافٹ کی
سہولت، کرایہ 12000 ماہانہ۔ رابطہ کریں: C-222، عجم
مار، فون: 9123456789“

ایسے اشتہار میں مکمل جملے لکھنے کے بعد اہم خصوصیات / امور کو ترتیب والکھا جاتا ہے۔ آخر میں رابطے کا پتا اور فون یا موبائل نمبر ضرور تحریر کیا جانا جائے۔

الاسفاف

آسامیان خالی ہیں	
1.	کاغذ پذیری اور نظر ثقہ اس سامانی کو کے لئے مددوں اور پرچار کا رامیہ اور سے درخواستیں مطلوب ہیں۔
2.	اممیاتی معاہدے کے مطابق اپنے اعلیٰ انتظامیہ کے لئے مددوں اور پرچار کا رامیہ اور سے درخواستیں مطلوب ہیں۔
3.	اممیاتی معاہدے کے مطابق اپنے اعلیٰ انتظامیہ کے لئے مددوں اور پرچار کا رامیہ اور سے درخواستیں مطلوب ہیں۔
4.	اممیاتی معاہدے کے مطابق اپنے اعلیٰ انتظامیہ کے لئے مددوں اور پرچار کا رامیہ اور سے درخواستیں مطلوب ہیں۔
5.	اممیاتی معاہدے کے مطابق اپنے اعلیٰ انتظامیہ کے لئے مددوں اور پرچار کا رامیہ اور سے درخواستیں مطلوب ہیں۔
6.	اممیاتی معاہدے کے مطابق اپنے اعلیٰ انتظامیہ کے لئے مددوں اور پرچار کا رامیہ اور سے درخواستیں مطلوب ہیں۔

کرایه/فروخت

مکان کراچی سرچا کمشنا بالا شرا نیو وخت
مکاری ٹکنی ماؤل نبر

کریں جس پر بڑے درجے
کریں 147 کروڑ اپنے املاک کو تھائیں
کوئی نہیں کر سکے 2 بیلروز

پانچ بارہ میں 249 صاریح میں اسی طبقے کا ملکہ ملکیت کے موقع میں ملزamt کے موقع

یونیورسٹی اور دوسرے مدرسے پر اپنے نام لے رہے تھے۔ اسی مدرسے کی طرف سفر کرنے والے بھائیوں کی تعداد ۲۰ تھی۔ اسی مدرسے کی طرف سفر کرنے والے بھائیوں کی تعداد ۲۰ تھی۔ اسی مدرسے کی طرف سفر کرنے والے بھائیوں کی تعداد ۲۰ تھی۔

کو اکٹ سیکھیں SMS کر لیے

• تصویری درجہ بند اشتہار (Display Classified Advertisement)

تصویری درجہ بند اشتہار میں تصویروں کے کچھ عناصر شامل کیے جاتے ہیں۔ ایسے اشتہاروں میں ٹائپگ کی رنگا رنگی، مختلف اشکال اور جاذب تصویروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے اشتہاروں کو تصویری درجہ بند اشتہار کہا جاتا ہے۔ بیشتر اخبارات تصویری درجہ بند اشتہاروں سے بھرے ہوتے ہیں۔ ایسے میں مخصوص اشتہاروں کو تلاش کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اشتہار ساز، ایسے اشتہاروں کو جاذب بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ قاری کی دلچسپی کو قائم رکھنے کے لیے تصاویر اور نگوں کا استعمال لازمی بن جاتا ہے۔ اگرچہ تصویری درجہ بند اشتہار میں تصویروں کے عناصر ہوتے ہیں لیکن انھیں مخصوص گروپ یا کالم کے تحت ہی رکھا جاتا ہے۔ تصویری درجہ بند اشتہار، ساخت میں درجہ بند اشتہار سے بڑے ہوتے ہیں۔ ایسے اشتہاروں میں قارئین صارفین کو متوجہ کرنے کے لیے پر کشش زبان و بیان اور جاذب تصویروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اشتہار، درجہ بند اشتہار سے فیضی ہوتے ہیں۔ ان کی شاید اخبار میں جلد کی بیانات پر ان کے اخراجات طے ہوتے ہیں۔ ایسے اشتہاروں میں ٹینڈر، نوٹس، گھریلو سامان اور روزگار وغیرہ کے اشتہار شامل ہوتے ہیں۔

• تصویری اشتہار (Display Advertisement)

اس طرح کے اشتہارات عموماً تین چار کالم میں شائع کیے جاتے ہیں۔ متن کے حروف جلی ہوتے ہیں اور ان میں تصاویر کے ساتھ سلوگن کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے اشتہار نصف یا پورے صفحے پر بھی شائع ہوتے ہیں۔ ایسے اشتہارات اکثر رنگیں ہوتے ہیں۔ ان میں صارفین کو متوجہ کرنے کے مختلف طریقے بروئے کارلاۓ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ رائے عامہ ہموار کرنے، عوامی بیداری لانے اور پروپیگنڈہ وغیرہ کے لیے اس طرح کے اشتہارات اخبارات اور رسائل میں شائع ہوتے ہیں۔ اس طرح کے اشتہار تیار کرتے وقت عبارت کی زبان الی ہونی چاہیے کہ فوراً ہی قاری کو اپنی طرف متوجہ کر لے۔ پیغام کو موثر اور دلچسپ بنانے کے لیے زبان کی روایتی ساخت سے روگردانی کی جاسکتی ہے۔ جملوں کے بجائے فقروں سے زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ سلوگن کے استعمال سے اشتہار پر کشش اور مقبول ہو جاتے ہیں۔ سلوگن کی چند مثالیں دیکھئے:

- 1۔ زندگی کے ساتھ بھی، زندگی کے بعد بھی
- 2۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی، مل کر سب کریں پڑھائیں



تصویری اشتہار میں نمائش کے مختلف عناصر جیسے رنگ اور تصویر وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اشتہار عام طور پر جسمات میں بڑے ہوتے ہیں ان میں تائپنگ کی مختلف اشکال ہوتی ہیں اور جاذب قصاویر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انھیں مزید جاذب بنانے کے لیے رنگوں کا زیادہ مقدار میں استعمال ہوتا ہے۔ تصویری اشتہاروں کے زیادہ پرکشش ہونے کی وجہ سے یقانین کی توجہ کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ ایسے اشتہاروں میں انتہائی نوٹر زبان کا استعمال ہوتا ہے۔

1.5 اخباری مراسلے

اخبارات اور رسائل میں مدیر کے نام قارئین کے خطوط شائع کیے جاتے ہیں۔ اخبارات میں عام طور سے یہ خطوط ادارتی صفحے پر شائع ہوتے ہیں۔ رسائل میں بھی ایسے خطوط مخصوص صفحہ / صفحات پر جگہ پاتے ہیں۔ مدیر کے نام خط لکھنے کا مقصد کسی سماجی مسئلے یا معااملے کی طرف اخبار اور اس کے قارئین کی توجہ مبذول کرنا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان خطوط میں اخبار کے معیار و مشمولات پر اٹھار خیال بھی ہوتا ہے اور صحت مند تقدیر بھی۔ ان خطوط کی نوعیت رسی ہوتی ہے، اس لیے ان میں معیاری زبان کا استعمال کرنا چاہیے۔ عام طور سے ان خطوط میں مخففات کا استعمال نہیں کرتے ہیں اور ہنگ آمیز الفاظ یا فقرولات سے ہر حال میں پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ خطوط ایک مخصوص بیان / ساخت میں لکھے جاتے ہیں جو درج ذیل ہے۔

• کہیجے والے کا پایا

سب سے پہلے خط لکھنے والے کو اپنایا اور رابطے کی تفصیلات مثلاً ای میل اور فون نمبر وغیرہ لکھنا چاہیے۔

• تاریخ

خط بھیجنے کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔

• مدیر کا پایا

اس کے بعد مدیر کا پتا لکھا جاتا ہے۔

• موضوع

خط لکھنے کے مقصد کو ایک سطر میں لکھا جاتا ہے۔

• القاب و آداب

محترم، بکری، جناب عالی وغیرہ

• نفس مراسل

اسے عام طور سے تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلے حصے میں خط لکھنے والا اپنا تعارف کرتے ہوئے خط لکھنے کا مقصد بیان کرتا ہے۔ دوسرا حصے میں موضوع و معااملے کی وضاحت کرتے ہوئے ضروری تفصیل لکھی جاتی ہے۔ تیسرا حصے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس ضمن میں مدیر یا اخبار سے کس طرح کے اقدام کی توقع کی جا رہی ہے۔ مثلاً اخبار اس مسئلے کو اجاگر کرے یا متعلقہ حکام / ادارے تک اس مسئلے کو پہنچائے۔ ان تین حصوں کو الگ الگ

عوامی ذرائع ابلاغ

عوامی ذرائع ابلاغ

پیرا گراف میں بھی لکھا جاسکتا ہے۔

- اختتامی آداب

شکریہ وغیرہ کے الفاظ

- صحیبے والے کا نام، دستخط اور عہدہ (اگر کوئی ہوتا)

عام طور سے اخبار میں القاب و آداب سے لے کر صحیبے والے کے نام و پتہ وغیرہ تکھے ہی شائع کیے جاتے ہیں۔




الیکٹرائک میڈیا

2.1 تعارف

اکیسویں صدی میں اطلاعاتی انقلاب الیکٹرائک میڈیا کے سبب آیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی تیز رفتاری ہے۔ یہ پلک حمکتے ہی دور دراز خطوں کی اطلاعات فراہم کر دیتا ہے۔ اس کا دائرہ اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ یہ صرف اطلاع، تعلیم اور تفریح فراہم کرنے تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ یہ جمہوری نظام کی مضبوطی، شہریوں کے حقوق کی پاسداری اور ان کے سیاسی و سماجی حقوق کے تحفظ کا کام بھی کرتا ہے۔ الیکٹرائک میڈیا عوامی نگرانی کے ایک ویلے کے طور پر کام کرتا ہے جو سماج میں راہ پانے والی ہر قسم کی بدعونی پر نظر رکھتا ہے اور انھیں اجاگر کرتا ہے۔ الیکٹرائک میڈیا کے متعدد ذرائع ہیں جن کے ذریعے اطلاعات، معلومات اور تفریحات ہم تک پہنچتی ہیں۔ ایسے ذرائع میں ریڈیو، ٹیلی ویژن اور سینما کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اکیسویں صدی میں ٹکنالوجی کی ترقی اور انتہائیت کے فروغ سے ساہمنی میڈیا کا تصور پیدا ہوا۔ ٹکنالوجی کی مزید وسعت نے اسے 'نیومیڈیا' کا نام دیا۔ نیومیڈیا میں عوامی شمولیت کی وجہ سے متعدد سو شش سائنس و جوہ میں آئیں تو اسے سو شش میڈیا کا نام دیا گیا۔ سو شش میڈیا کے ذرائع میں گول، یا ہو، فیس بک، ٹوئٹر، یوٹیوب، وہاں ایپ، اسکا پپ، انسٹاگرام، بلاگ وغیرہ اہمیت کے حامل ہیں۔

2.2 ریڈیو

ساہمنی اصطلاح میں ریڈیو ایسی لہروں کا استعمال کرتے ہوئے معلومات اور اطلاعات کو ایک جگہ سے دوسرا جگہ منتقل کرنے والی ٹکنالوجی کو ریڈیو کہتے ہیں۔ عام زبان میں اس مشین کو ریڈیو کہتے ہیں جو ریڈیو ایسی لہروں پر منی ٹکنالوجی کی مدد سے آوازوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچاتی ہے۔ عوامی ذرائع ابلاغ کے میدان میں ریڈیو کو الیکٹرائک میڈیا کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ اسے محض اطلاعات و معلومات پہنچانے کے ویلے کی حیثیت سے ہی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی بلکہ یہی مشین عوامی تفریح کا واحد الیکٹرائک ذریعہ تھی۔ دراصل اخبارات یا مطبوع متن سے صرف پڑھنے کے لئے لوگ ہی فیض یا بہوتے تھے لیکن ریڈیو نے ناخواندہ لوگوں کے لیے بھی اطلاعات و معلومات اور تفریح کے راستے کھول دیے تھے۔ جیسی ٹرانسیستر کی ایجاد اور مقبولیت کے بعد یہ ہر فرد کی دسترس میں آگیا۔ خبروں، نغموں، عوامی مسائل اور سیاسی حالات پر تباہوں اور قدرتی آفات سے پیشگوئی آگاہی جیسے پروگراموں نے اسے عوامی زندگی سے قریب تر کر دیا۔



میں سویں صدی کی تیسراں دہائی میں ہندوستان میں ریڈ یو نشریات کے تجربات شروع ہوئے۔ اس زمانے میں کوکاتہ، ممبئی اور چنڈیگڑی کلب قائم کیے گئے۔ البتہ 1927ء میں باقاعدہ طور پر ممبئی ریڈ یو اسٹشن کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بعد چنڈیگڑی، دہراون اور کوکاتہ میں بھی ریڈ یو اسٹشن قائم کیے گئے۔ 1930ء میں حکومت ہند نے کوکاتہ اور ممبئی کے ریڈ یو اسٹشنوں کو اپنی تحویل میں لے لیا اور نشریات کے تمام ادارے ملکہ محنت و صنعت کے تحت قائم ائمین اسٹیٹ براؤ کا سٹنگ سروس کی تحویل میں دے دیے۔ 1936ء میں اسی ادارے کو آل انڈیا ریڈ یو کا نام دیا گیا۔ اسے آکاش وانی بھی کہا جاتا ہے۔

اے ایم چینلوں کی مقبولیت کے بعد ایف ایم چینلوں کے آغاز کے ساتھ ہی خجی ریڈ یو سروس کی شروعات نے اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ کر دیا۔ ریڈ یو مرضی اور ریڈ یو سٹی جیسے خجی اسٹشنوں نے ریڈ یو کو بدلتے زمانے کی ترقی سے ہم آہنگ کیا۔ اب سیٹلائز، لکیوٹی ریڈ یو اور ویب ریڈ یو کی ایجاد نے بھی اس کی ترقی کا ایک باب کھول دیا ہے۔

2.2.1 ایف ایم ریڈ یو



ابتداء میں نشریات Amplitude Modulation (AM) تکنیک کے ذریعے ہوتی تھیں جسے دنیا بھر میں میڈیم ویو (Medium Wave) اور شارٹ ویو (Short Wave) کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آکاش وانی کے اسٹشن سے اب بھی نشریات میں اس تکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس تکنیک کی وجہ سے آکاش وانی کو دور دراز دیہی علاقوں تک سنایا جاتا ہے۔

AM نشریاتی تکنیک کے بعد ایف ایم (Frequency Modulation) نشریاتی تکنیک کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے 1933ء میں ایک امریکی انجینئر ایم آرم اسٹنگ (Edwin Armstrong) نے اسے متعارف کرایا اور ہندوستان میں ایف ایم براؤ کا سٹنگ 1977ء میں مدرس (موجودہ چنڈی) میں شروع ہوئی اور 90 کی دہائی میں اس نے ترقی پائی۔ اس تکنیک کے ذریعے نشریات بہت صاف سنائی دینے لگیں اور اس نے ریڈ یو نشریات میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ ایف ایم تکنیک سے نشریات کی ایک حد ہوتی ہے یعنی ٹرانس میٹر کی رشیج بہاں تک ہے وہیں تک اس کی نشریات سنائی دیں گی۔

آل انڈیا ریڈ یو نے 1993ء میں دلی سے ہندوستان کا پہلا ایف ایم چینل شروع کیا جس نے زبردست مقبولیت حاصل کی۔ اس میں پروگراموں پر خصوصی توجہ دی گئی۔ سماں میں کے طور پر خاص طور سے نوجوانوں کو دہن میں رکھا گیا۔ اس ایف ایم چینل کی خاص بات یہ تھی کہ اس پر ہندی، انگریزی دونوں ہی زبانوں میں پروگرام نشر کیے جاتے رہے۔ اناؤنسر کی جگہ ریڈ یو جا کی کا تصور سامنے آیا جو بات چیت کے انداز میں پروگرام پیش کرنے لگا۔ الگ الگ انداز کے پروگرام ایف ایم پر نشر ہونے لگے۔ ایف ایم کی مقبولیت کے سبب آل انڈیا ریڈ یو نے اپنا ایک اور نیا ایف ایم چینل 2001ء میں شروع کیا جس کے بعد دونوں ایف ایم چینلز کو ایف ایم وون اور ایف ایم نو کے نام سے جانا جانے لگا۔ اب انھیں ایف ایم رین بو (Rainbow) اور ایف ایم گولڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔



ایف ایم چینلوں کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے کچھ نجی کمپنیوں نے بھی اپنے ایف ایم چینل شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور 2000 میں سرکار نے ان چینل کے لائنس کی ٹیکامی کی جس کے بعد ریڈیو میر پچی، ریڈیو ایشی، ریڈیو ایم اور بگ ایف ایم چینلوں کا آغاز ہوا۔ ایف ایم چینلوں کی فہرست میں اضافہ ہو رہا ہے اور اب بڑے میٹرو شہروں کے ساتھ ساتھ چھوٹے شہروں میں بھی یہ بے حد مقبول ہیں۔ نجی ایف ایم چینلوں کے آنے کے بعد اس شبے میں روزگار کے امکانات روشن ہوئے۔

آل انڈیا ریڈیو کے ایف ایم چینلوں کی مقبولیت اس لیے زیادہ ہے کیون کہ انہیں DTH کے ذریعے کہیں بھی سنا جاسکتا ہے اور اب AIR کے موبائل ایپ (All India Radio Live) کے ذریعے آل انڈیا ریڈیو کے ایف ایم اور دیگر چینلز کو دنیا میں کہیں بھی سنا جاسکتا ہے۔ ایف ایم چینل دنیا بھر کے ملکوں میں مقبول ہیں۔ لوگ گھروں اور اپنی گاڑیوں میں، موبائل فون میں اور آئی پوڈ پر ان کا لطف لیتے ہیں۔ تفریق کے ساتھ ساتھ معلومات کا یہ جدید اور موثر ذریعہ ہیں۔

2.2.2 کمیونٹی ریڈیو

ریڈیو کا بنیادی مقصد تفریق کے ساتھ ساتھ معلومات فراہم کرنا ہے۔ اسی صورت حال میں معلومات کے لیے مخصوص ریڈیو چینل کا خیال ہندوستان کے لیے نیا تھا۔ چوں کل لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا ریڈیو ایک اہم ذریعہ ہا ہے اور اگر کسی خاص کمیونٹی یا علاقوں کے لیے ریڈیو معلومات کا ذریعہ بن جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وزارت برائے اطلاعات و نشریات نے 2002 میں کمیونٹی ریڈیو سے متعلق رہنمाख طبقہ جاری کیے اور 2006 میں ہندوستان میں تعلیمی اداروں، زرعی اداروں اور غیر سرکاری تنظیموں (NGO's) کو لائنس جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ کمیونٹی ریڈیو FM پر ہی سے جاتے ہیں لیکن ان کی رسائی محدود دائرے تک ہی ہوتی ہے کیون کہ

ان کا ثرا نسیمیر کم طاقت کا ہوتا ہے۔ کمیونٹی ریڈیو کا تصور مکمل طور پر غیر منافع بخش رہا ہے کیوں کہ اس پر ریڈیو اشتہار نشر کرنے کی بہت کم گنجائش ہے لیکن اب صورت حال میں تبدیلی کے باعث کمیونٹی ریڈیو پر کچھ اشتہار نشر کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس کی نشریات بھی کچھ گھنٹے کے لیے وقتفتنے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یعنی عام طور پر ایف ایم ریڈیو 24 گھنٹے پروگرام نشر کرتا ہے۔ کمیونٹی ریڈیو دون کے کچھ مخصوص وقت میں ضرورت کے لحاظ سے صبح، دوپہر اور شام اپنی نشریات پیش کرتا ہے۔ اس کی نشریات تقریباً سات کلو میٹر کے دائرے میں سنبھال سکتی ہیں۔


جس کمیونٹی کے لیے یہ ریڈیو چینل ہے اس کے اطراف میں مقیم افراد اس کی نشریات میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ یعنی اسکرپٹ یا پروگرام تیار کریں گے اور نشر بھی کریں گے۔ عوام کی شمولیت، اس کے مقاصد میں شامل ہے۔ ترقیت سے زیادہ معلومات اور عوام میں بیداری پیدا کرنا کمیونٹی ریڈیو کا اصل مقصد ہے۔ کمیونٹی ریڈیو پر نشریات میں موضوعات مقامی دلچسپی کے ہوتے ہیں۔

کمیونٹی ریڈیو کی نشریات کا زیادہ تر کام رضا کارانہ طور پر مقامی افراد ہی کرتے ہیں۔ کمیونٹی ریڈیو نسل کے ہنر و نکاحرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے مثلاً اگر کوئی شاعری کرتا ہے، مضمون لکھتا ہے یا گانے کا شوقین ہے تو وہ بہاں آ کر اپنے فن کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ ہندوستان میں زیادہ تر تعلیمی ادارے ہی کمیونٹی ریڈیو چالار ہے ہیں۔ اس میں منافع نہیں ہے۔ ابتداء میں اس کو ”کیمپس ریڈیو“ بھی کہا جاتا تھا۔

اس وقت دلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کاریڈیو جامعہ، دہلی یونیورسٹی کا DUCR، آئی آئی ایم سی کا اپناریڈیو اور حیدر آباد یونیورسٹی کا بول حیدر آباد وغیرہ اہم کمیونٹی ریڈیو چینل ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ شاہی ہندوستان کا پہلا تعلیمی ادارہ ہے جس نے وزارت برائے اطلاعات و نشریات سے کمپس کمیونٹی ریڈیو شروع کرنے کا لائنس حاصل کیا تھا۔

2.2.3 ویب ریڈیو

ڈیجیٹل نکالوچی کی پیش رفت کے بعد ویب ریڈیو کا چلن عام ہو رہا ہے۔ اس کو انٹرنیٹ ریڈیو یا آن لائن ریڈیو بھی کہا جاتا ہے۔ یوں تو ویب ریڈیو کی شروعات بیسویں صدی کی آخری دہائی میں ہو چکی تھی۔ انٹرنیٹ کا استعمال عام ہونے کے بعد اسے فروغ حاصل ہوا۔ ویب ریڈیو کو انٹرنیٹ کی مدد سے نشر کیا جاتا ہے جسے ویب کاست کہتے ہیں۔ انٹرنیٹ ریڈیو کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ آپ کہیں بھی کہیں بھی ویب ریڈیو پروگرام سن سکتے ہیں۔ اس میں یہ



آسانی بھی ہے کہ اس کے پروگراموں کوڈ اون لاؤڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم صرف متعلقہ لینک کو کلک کر کے پروگرام سن سکتے ہیں۔

دیب ریڈ یو نے انفرادی ریڈ یو کے لیے راستہ ہموار کر دیا ہے۔ اگر کسی کے پاس بنیادی تکنالوجی کمپیوٹر اور ضروری ایئرینگ سافت ویری موجود ہو تو دیب ریڈ یو شروع کر سکتا ہے جس میں وہ علمی یا ترقیاتی نویعت کے پروگرام پیش کر سکتا ہے۔

ان دونوں کمپیوٹر کی مدد سے اپنے دیب ریڈ یو شروع کیے جا رہے ہیں۔ موسیقی کے شوقین انفراد اپنے پاس موجود مخصوص فلمی نغمے، غزل اور گیت وغیرہ دیب ریڈ یو پر نشر کرتے ہیں۔ اس میں دلچسپی رکھنے والے لوگ اپنے ذوق کے مطابق موسیقی نشر کرتے ہیں اور اسی مخصوص موسیقی کا ذوق رکھنے والے قطعی خجی نویعت کے اس ریڈ یو کے سامنے ہیں جاتے ہیں۔ اس طرح کے ریڈ یو مغربی ممالک میں زیادہ مقبول ہیں اور مختلف بیندُس اپنی موسیقی کو دیب ریڈ یو پر نشر کرتے ہیں۔

2.3 ریڈ یو پروگرام

ریڈ یو پر مختلف قسم کے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ کچھ معمولاتی نویعت کے ہوتے ہیں اور کچھ ترقیاتی۔ ریڈ یو پروگراموں میں سامعین کی دلچسپی کو پیش نظر کھانا جاتا ہے۔ ریڈ یو اسٹیشن یو کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو انھیں کی زبان میں ان کی پسند کے پروگرام سنائے جائیں۔ ریڈ یو پروگراموں میں موسیقی اور نغموں کے پروگرام، ریڈ یو ڈرامے، ریڈ یو فیچر اور ریڈ یو مبائیش بے حد مقبول رہے ہیں اور لوگ بڑی تعداد میں ان پروگراموں کو دلچسپی سے سنتے رہے ہیں۔ ریڈ یو پر نشر ہونے والی خبریں اور حالات حاضرہ پر تبصرے وغیرہ عوام کو اطلاعات پہنچانے کا اہم وسیلہ ہیں۔ ذیل میں ان پروگراموں کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔

2.3.1 ریڈ یو جبر

تریبل و ابلاغ کے نئے نئے ذرائع شروع ہونے کے باوجود ریڈ یو کی اہمیت اور مقبولیت میں کمی نہیں آئی ہے بلکہ اس کے ڈیجیٹائزیشن کے بعد اس میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں آج بھی ایک بڑی آبادی دیکھی علاقوں میں رہتی ہے ریڈ یو عوام تک پہنچنے کا اہم اور معتبر ذریعہ ہے۔ ہندوستان میں جتنی رسائی آں انڈیا ریڈ یو کی ہے اتنی کسی اور کسی نہیں ہے۔ خبروں کے حوالے سے بھی آں انڈیا ریڈ یو کی خدمات ناقابل فرماوٹ ہیں اور ریڈ یو پر نشر ہونے والی خبریں ہمیشہ مقبول رہی ہیں۔ خاص طور سے دور راز اور دشوار گزار علاقوں کے باشندوں کو مرکزی دھارے سے جوڑنے کا کام کیا ہے۔

ہندوستان میں ریڈ یو پر خبریں نشر کرنے کا اختیار صرف آں انڈیا ریڈ یو کو ہی ہے۔ آں انڈیا ریڈ یو میں باضابطہ نیوز سروس ڈویژن (NSD) ہے جس کے تحت انگریزی اور ہندی کے علاوہ ہندوستان کی مختلف زبانوں کے شعبے ہیں جن میں اردو بھی شامل ہے۔ ان کے علاوہ آں انڈیا ریڈ یو کے External Services Division سے غیر ملکی زبانوں میں بھی خبریں نشر کی جاتی ہیں۔

29/03/2019 8:40
FI RAD Monsoon

آنندہ مانسون میں بارش کے تابع میں اضافہ کرنے کی غرض سے ریاست کا بینے نے مصنوعی بارش کا تجربہ کرنے کو منظوری دی ہے۔ ریاست میں پیدا شدہ خلک سالی پر قابو پانے اور پانی کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے ریاستی حکومت نے یعنی الوجی کی مدد سے تمام ضروری اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جس میں مصنوعی بارش کا تجربہ بھی شامل ہے۔ قابل قدر باروں کی موجودگی میں کیے جانے والے اس تجربے کے لیے بھی منصوبہ بندی کی ضرورت کے پیش نظر کا بینے نے فیصلہ کیا۔ ریاست کے مرادواز، وود بخ اور غرقی ہمداد اسٹریکٹی سے متاثرہ علاقوں میں باروں پر کمیکن چھڑک کر مصنوعی بارش کا تجربہ کیا جائے گا۔

ریاست میں شروع کی گئی چارہ چھاؤں میں بیکاروں کے ذریعے پانی فراہم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ ریاست کا بینے کی دبی کمیٹی کی میٹنگ میں لیا گیا۔ اس اجلاس کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے مدد اور بازار آبادکاری کے وزیر نے بتایا کہ ریاست میں بکریوں اور مینڈیوں کے لیے بھی چارہ چھاؤں شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ جانوروں کی دیکھ بھال کی غرض سے چارہ چھاؤں میں رہائش پذیر کسان خاندانوں کے لیے عرضی بیت الحلاہ تعمیر کرنے کی بہایت بھی انتظامیہ کو دی گئی ہے۔

ایک آتی ہیں جنہیں سمجھا کر کے الگ الگ زبانوں کے شعبوں کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ شبے اپنی متعلقہ زبانوں میں اسے ترجمہ کر کے خبروں کا بلیٹن تیار کرتے ہیں اور اسے براور است پیش کرتے ہیں۔

آکاش وانی ولی سے اردو میں صبح 8:50، دوپہر 1:50 اور رات سوا نوبجے دس سے پندرہ منٹ کا جریدہ نشر ہوتا ہے جسے Home Bulletin کہتے ہیں۔ آل انڈیا ریڈیو کے External Service Division کے تحت اردو سروس سے بھی دن بھر میں وقق و وقق سے اردو خبریں اور خبروں کا غالاصہ نشر ہوتے رہتے ہیں۔

ریڈیو خبروں کی زبان عام فہم ہوتی ہے۔ خبروں کا معاملہ نہایت حساس ہے۔ کسی حادثے کی خبریں دیتے وقت اعداد و شمار کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ تیار کی گئی خبروں کو ریڈیو پر پڑھنے یا نشر کرنے کا مرحلہ بہت اہم ہے۔ ریڈیو پر خبریں اسٹوڈیو میں بیٹھ کر پڑھی جاتی ہیں جو براہ راست نشر ہوتی ہیں۔ اسی لیے تلفظ، جملوں کی ادائیگی، وقفہ یا تھہراوا اور اواز کے اتار چڑھاؤ اور لمحہ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ بلیٹن کو اسٹوڈیو میں پیش کرنے سے پہلے ہی ایک مرتبہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس کی مشق کرنی جائے تو غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے۔

ریڈیو پر نشر ہونے والے بلیٹن میں خبریں پڑھنے والا سب سے پہلے ریڈیو ایشیشن کا نام بتاتا ہے۔ مثلاً وہ اعلان کرتا ہے کہ یہ آکاش وانی ہے۔ پھر وہ اپنی زبان کی تہذیب کے اعتبار سے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہے۔ مثلاً اردو میں ایشیشن کے اعلان کے بعد آداب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیوز ریڈیو پیغام بتاتا ہے۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں نشر کی جاتی ہیں۔ عام طور پر چھاسات خبروں کی اہم اطلاع کو بطور سرفی پیش کیا جاتا ہے۔ بلیٹن میں ہر شعبۂ زندگی سے متعلق خبروں کو شامل کیا جاتا ہے۔ عموماً سرکاری سٹھن پر طے پائے اہم فیصلوں کو ترجیح دی جاتی ہے اور انہیں اول خبر کے طور پر نشر کیا جاتا ہے۔ بلیٹن میں اہم عدالتی فیصلوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ کھیل سے متعلق اہم خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوتی ہیں۔ میں الاقوامی امور کو بھی پیش نظر کر کھا جاتا ہے۔ خبروں کے آخر میں وہی سرخیاں یا اہم خبریں دوبارہ نشر کی جاتی ہیں جنہیں نیوز ریڈر نے خبروں کے آغاز میں پڑھاتا۔

خبروں کے بلیٹن میں خبر کا دورانی خبر کی نوعیت کے مطابق طے پاتا ہے۔ کسی خبر کے لیے دو منٹ، کسی خبر کے لیے اس سے کم اور کسی خبر کے لیے محض 30 سینٹیسیکون کا وقت ہوتا ہے۔ بعض اہم خبروں کے دوران ساٹھ بانٹس بھی نشر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر وزیر اعظم کے کسی اہم بیان سے متعلق خبر کے دوران وزیر اعظم کی ریکارڈ کی ہوئی آواز

سائی جاتی ہے۔ اسی طرح بعض خبروں میں کسی نمائندے کی آواز میں خبر کا کچھ حصہ سنایا جاتا ہے۔ مثلاً بنگال سے متعلق کسی خبر کا کچھ حصہ اگر کوکاٹیہ کے نمائندے کی زبان سے سنایا جاتا ہے تو خبر زیادہ معتمر معلوم ہوتی ہے۔ نمائندے کی آواز میں شامل ہتھے کو Voice Cast کہا جاتا ہے۔ اکثر ایک بلین میں دو تین Voice Cast شامل کیے جاتے ہیں۔

2.3.2 ریڈیو فچر

ریڈیو فچر ایک غیر انسانی بیانیہ ہے۔ اس نشریاتی صنف کو ایک یا متعدد آوازوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی موضوع پر لکھے جاسکتے ہیں۔ اس کا دائرہ کار، بہت وسیع ہے۔ ریڈیو فچر عام طور پر معلوماتی ہوتے ہیں اسی لیے موضوع سے متعلق جتنی معلومات جمع کی جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کے لیے تحقیق و جستجو کی ضرورت ہوتی ہے۔

اردو سروک سے نشر شدہ فچر


(تاریخ نشر 5 راگسٹ 1988ء رات نوبجے)

غالب کے خطوط

(بسیلہ اور اراق مصور کے)

غالب نے اردو میں خطوط شوپنگ نہیں ضرورت کے تحت لکھنے شروع کیے تھے۔ خطوط فویسی میں اطہار کے امکانات نے بہت جلد ان میں چھپے ہوئے اس فنکار کو جگادیا جو ردیف اور قافیہ کی مشقت سے تھک کر سو گیا تھا۔ پچاس برس کے بعد فنکار کے ذہن، جذبے اور فکر میں ہونے والی وہ تبدیلیاں جو تخلیق عمل کے راستے میں روکاوث بن جاتی ہیں۔ نشر کے اس نئے وسیع اور کشاہہ میدان میں غالب کے لے بہت بڑا انتہا ثابت ہوئے۔ خطوط فویسی غالب کی ڈھنی آسودگی کا سب سے بڑا ذریعہ بھی تھا۔ بے شمار دوستوں میں گھر انسان تہباہ گیا تھا۔ 1857 کے ناکام انقلاب نے ہزاروں دوست، شاگرد اور ملاح موت کے گھاث اتار دیے گئے تھے۔ اب نہ قلعہ کا دربار تھا، نہ مشاعرے اور نہ شام کی ادبی محفلیں۔ دیکھئے کس حضرت سے اور کس دراگیز انداز میں غالب اپنے پچھڑے ہوئے دوستوں کو یاد کرتے ہیں۔ میر سرفراز حسین کو لکھتے ہیں کہ:

”وہی بالا خانہ اور وہی میں ہوں، سیر ہیوں پر نظر ہے کہ وہ میر مهدی آئے، میر سرفراز حسین آئے، وہ یوسف مرزا آئے، وہ میرن آئے، یوسف علی خاں آئے، مرے ہو وہیں کا نام نہیں لیتا۔ پچھڑے ہوئے میں کچھ فتح گئے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ ہزاروں کا میں ماقم دار ہوا۔ میں مروں گا تو مجھ کو کون روئے گا۔“



غالب اپنے شاگردشی ہر گوپاں تفتہ کو لکھتے ہیں:

”انصاف کرو کتنا کشیر الاحباب آدمی تھی۔ کوئی وقت ایسا نہ تھا کہ میرے پاس دوچار دوست

نہ ہوتے ہوں۔ اب یاروں میں ایک شیورام برہمن، بال مکند اور اس کا بیٹا یہ شخص ہیں کہ
گاہ گاہ آتے ہیں۔“

ایک اور خط میں تفتکو لکھتے ہیں:

”میں اس تہائی میں صرف خطوط کے بھروسے پر جیتا ہوں۔ یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا
کہ وہ شخص تشریف لایا۔“

غالب کا سب سے اہم مشغله خطوط نویسی ہی تھا۔ خطوط کے سہارے انہوں نے ایک بزم سچارکھی تھی جس میں
ان کے عزیز، دوست، معتقد، مداخ اور شاگرد غرض سمجھی شریک تھے۔ اس بزم کی نضاکت شفاقت، تصنیع اور تکلف سے
پاک رہتی۔ غالباً ان اہل بزم کو اپنے دکھ درد میں شریک کرتے اور اپنی ناکامیوں کا ماتم کرتے اور کامیابیوں پر خوشی
اور مسرت کا اظہار کرتے ہی نہیں وہ اس بزم میں شریک ہونے والوں کی خوشی اور غم میں خود بھی بار کے شریک
رہتے۔ غالب کے خطوط میں زندگی اپنی تمام رعنائیوں، لکشیوں، بلندیوں، پستیوں اور پے چبیگیوں کے ساتھ جلوہ
گرفتار آتی ہے۔ شاید ان میں ان کی آواز ہمیں کافی دور سے سنائی دیتی ہے۔ لیکن خطوط میں تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر
ہم سے محفوظ ہیں۔ شاعری میں وہ ہمارے دکھ درد اور ہمارے فیضیات اجھنوں کا مدد اور ایک مفکر، فلسفی، صوفی اور ایک
اخلاق کے مصلح کی حیثیت سے کرتے ہیں۔

لیکن خطوط میں وہ ایک حقیقت پسند اور عملی انسان کی حیثیت سے ہمارے دکھ درد اور خوشی و غم میں شریک ہوتے
ہیں۔ ان خطوط میں ہمیں ایک منطقی دماغ کا نہیں بلکہ حساس اور دھڑکتے ہوئے دل اور وہ سانس جس سے زندگی کے
وجود کا احساس ہوتا ہے۔

غالب کے خطوط مصور کے اوراق ہیں۔ جن میں مخصوص عہد کی بے شمار خوبصورت اور لذکش تصویریوں کے ساتھ
خون کے آنسو روادینے والے المناک مرقعے بھی ہیں۔ ان خطوط میں بہت بڑی تعداد میں تاریخی حقائق تاریخی اور
ادبی شخصیتوں کے مرقعے محفوظ ہو گئے ہیں۔ عہد غالباً کی سیاسی، سماجی اور تہذیبی زندگی کے مطالعہ کے لیے خطوط
غالب اہم ترین مأخذ ہے۔ غالباً کی دنیا بہت وسیع ہے۔ اگر صرف ان انگریز عہدوں کا جائزہ لیا جائے جن سے
غالب کے تعلقات تھے یا غالباً نے جس سے پہنچن کے سلسلے میں رابطہ قائم کیا تھا۔ انہیں وہی صدی کے نصف
اول کے ہندوستان میں برطانوی حکومت کی تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح غالباً کے
خطوط میں جن فارسی اور اردو شاعروں اور ادبیوں کا ذکر آیا ہے۔ ان کے حالات مرتب کیے جائیں تو فارسی اور اردو
شاعروں کا اچھا خاصات ذکرہ تیار ہو جائے گا۔

غالب کے عہد کی بعض ریاستوں جیسے رام پور، بیکانیر، الور، بھرت پور، فیروز پور جھرکہ، لوہارو، اودھ، جے پور
اور باندہ وغیرہ کے حالات پر خطوط سے خاصی روشنی پڑتی ہے۔ غالباً کے خطوط پر بھر پور تھرے کے لیے پوری
کتاب چاہیے۔ یہاں میں غالباً کے خطوط سے چند مرقع پیش کرنا چاہتا ہوں۔ غالباً کے ایک شاگرد میر مہدی
محروم تھے۔ میر محروم کے دوست اشرف علی پہلی پاروں آئے تو غالباً سے بھی ملاقات کو حاضر ہوئے۔ غالباً نے

محروم کو خط میں میرا شرف علی سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا۔ ذرا ان کا انداز بیان تو ملاحظہ کیجیے:

”کل دو پہر ڈھلے ایک صاحبِ انجینی سانوں سلوٹے، واڑھی منڈھے،
بڑی بڑی آنکھوں والے تشریف لائے۔ تمہارا خط دیا۔ صرف ان کی ملاقات
کے تقریب میں تھا۔ ان سے اسم شریف پوچھا گیا۔ فرمایا شرف علی، قومیت کا
استفسار ہوا تو معلوم ہوا کہ سید ہیں۔ پیشے پوچھا تو حکیم نہلے۔ یعنی حکیم میر
اشرف علی۔ میں ان سے مل کر بہت خوش ہوا۔ بہت خوب آدمی ہیں۔ کام کے
آدمی ہیں۔“

کام کے آدمی ہیں۔ غالب کی ایک ملازمتیں بی وفادار۔ بہت دلچسپ شخصیت کی مالک۔ علاء الدین خاں
علائی کے نام ایک خط میں انھوں نے ان کی شخصیت کا بہت دلچسپ اور لکھن خاک کھینچا ہے۔ لکھتے ہیں:

”لبی وفادار جن کو تم کچھ اور بھائی خوب جانتے ہیں۔ اب تمہاری پھوپھی نے
انھیں وفادار بیگ بنادیا ہے۔ باہر نہلکی ہیں سودا تو کیا لا نہیں گی۔ مگر خلیق اور
ملنار ہیں۔ رشتہ چتوں سے باتیں کرتی پھرتی ہیں۔ جب وہ محل سے نکلیں
گی، ممکن نہیں کہ اطراف شہر کا سیر نہ کریں۔ ممکن نہیں کہ دروازے سے باہر
سپاہیوں سے باتیں نہ کریں گی۔ ممکن نہیں کہ پھول نہ توڑیں اور بی بی کو لے
جا کرند کھائیں اور نہ کھیں کہ یہ پھول تائی پچا کے بیٹے کے کامی کے ایں کے
ہیں۔“

غالب کی ساری زندگی اپنی اتنا کی گلہداری میں گزری لیکن عملی زندگی میں جب غالب کی اتنا بادی حادث کی
چیزیں کھاتی ہے تو غالب اپنا ماق اڑانے سے بھی بعض نہیں آتے۔ اپنے ایک شاگرد مرزا قربان علی بیگ سالک کو
لکھتے ہیں:

”یہاں خدا سے بھی تو قع باقی نہیں مخلوق کا کیا ذکر۔ کچھ نہیں آتی۔ اپنا آپ
تماشائی بن گیا ہوں۔ رنج و ذلت سے خوش ہوتا ہوں یعنی میں نے خود کو اپنا
غیر قصور کر کیا ہے۔ جو دکھ مجھے پہنچتا ہے۔ کہتا ہوں کہ لو غالب کو ایک جوی
گلی۔ بہت اتراتا تھا کہ میں بڑا شاعر اور فارسی داں ہوں۔ آج دور دوڑتک
میرا جواب نہیں۔ لے اب تو قرض داروں کا جواب دے۔ حق تو یوں ہے کہ
غالب کیا مرابڑ ملحد رہا، بڑا کافر رہا، ہم نے از راہ تقطیم جیسا بادشاہوں کو بعد ان
کے آرام گاہ و عرش نیشن کا خطاب دیتے ہیں، چوں کہ یہا پنے آپ کو شاہ قلمرو
خون جانتا تھا۔ سفر مقرا اور بادیز اویہ کا خطاب تجویز کر رکھا ہے۔“

آگے چل کر غالب اپنی معاشری بدھائی کا جس طرح ذکر کرتے ہیں، اسے اس انداز میں لکھنے کے لیے ہاتھ بھر کا

کلیج چاہیے۔ ذرا ملاحظہ تو کبھی۔ لکھتے ہیں:

”آئے نجم الدولہ بہادر ایک قرض دار کے گریبان میں ہاتھ، ایک قرض دار بھوگ سن رہا ہے۔ میں ان سے پوچھ رہا ہوں جی حضرت، نواب صاحب کہیے، اوغلان صاحب کہیے آپ سلطوقی اور افراسیابی ہیں۔ یہ کیا بے حرمتی ہو رہی ہے کچھ تو اسکو، کچھ تو بولو۔ بولے کیا بے حیا، بے غیرت، کوئی سے شراب، گندھی سی گلاب، بڑا سے کٹر، یہود فرش سے آم، صراف سے دام، قرض لیے جاتا ہے۔ یہ بھی تو سوچا ہوتا کہاں سے دوں گا۔“

اس خط میں غالب کی انا کے شیش محل کے چکن اچور ہونے کی جھوکار سنائی دیتی ہے۔ بظاہر غالب نے اپنی کمزوریوں، معاشی بدحالیوں اور محرومیوں کا مضمکہ اڑایا ہے۔ لیکن اس بذلہ سخنی اور شوخی بیان کی تہہ میں ناقابل بیان ڈھنی کرب اور محرومی کا شدید احساس ہے۔

یہ صرف غالب کی داستان نہیں بلکہ 1857 کے ناکام انقلاب کے بعد اس پورے طبقے کی داستان ہے جو کبھی مدد اقتدار پر جلوہ افروز تھا۔ جسے سلطوقی اور افراسیابی ہونے پر ناز تھا۔ لیکن اب وہ مہاجن کے قرض کی زندگی بر کر رہا تھا۔

غالب نے اپنے عہد کے واقعات بہت ولچپ انداز میں اس طرح لکھے کہ واقعات تاریخ کے ساتھ ساتھ ادب کا حصہ بھی بن گئے ہیں۔ غالب کی عظمت یہ تھی کہ وہ خخت نامساعد حالات میں بھی ہنسنے کا موقعہ نکال لیتے ہیں۔ حافظہ موسو کے مقدمے کا فیصلہ غالب کی زبانی ملاحظہ ہو۔ یہ 1857 کے بعد کی بات ہے۔ لکھتے ہیں:

”ایک لطیفہ پرسوں کا سنو! حافظہ موسو بے گناہ ثابت ہو چکے۔ رہائی پا چکے ہیں۔ حاکم کے سامنے حاضر ہوا کرتے ہیں۔ املاک اپنی مانگتے ہیں۔ قبض و تصرف ان کا ثابت ہو چکا ہے۔ صرف حکم کی دیر۔ پرسوں وہ حاضر ہیں۔ مسل پیش ہوئی۔ حاکم نے پوچھا۔ حافظ محمد بنی کون۔ عرض کیا کہ ”میں“ پھر پوچھا کہ حافظہ موسو کون، عرض کیا کہ ”میں“، اصل نام میر احمد بنی ہے۔ موموشہر ہوں۔ فرمایا یہ کچھ بات نہیں حافظ محمد بنی تم، حافظہ موسو بھی تم، سارا جہاں بھی تم، جو کچھ دنیا میں ہے، وہ بھی تم۔ تم مکان کس کو دیں۔ مسل داخل دفتر ہوئی اور میاں مموا پنے گھر چلے آئے۔“

ریڈیو فیچر میں سامیعن کی ولچپی برقرار رکھنے کے لیے بیانیہ میں انٹرویو، موسیقی، شاعری اور صوتی اثرات وغیرہ کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ریلوے ایشین کا منظر پیش کر رہے ہیں تو ریل گاڑی کی آواز سنائی ہوگی۔ لیکن ان سب عناصر کے درمیان توازن بہت اہم ہے۔ کوئی بھی چیز ضرورت سے زیادہ یا بہت کم نہ ہو۔ سامیعن کو جسوس ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور یہی ایک اچھے فیچر کی خوبی ہے۔ ریڈیو فیچر تیار کرتے وقت

اس کا دورانیہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے۔ اگر زیادہ طویل ہے تو اسے دو قسطوں میں تقسیم کرنا بہتر ہو گا۔ اس سے سامعین کا تجسس بھی قائم رہے گا۔

پیش کے اعتبار سے ریڈ یو فیچر کو دوزمزدوں میں تقسیم کیا جاتا ہے:

1۔ بیانیہ فیچر

اس فیچر میں ایک یا اس سے زائد راوی ہوتے ہیں جو کسی موضوع پر سامعین سے راست خطاب کرتے ہیں۔ بیانیہ فیچر میں عام طور پر شخصیات، مقامات اور ادبی موضوعات وغیرہ کو پیش کیا جاتا ہے۔

2۔ ڈرامائی فیچر

اس فیچر میں کئی آوازوں کے درمیان مکالمہ پیش کیا جاتا ہے۔ مکالمے میں پوشیدہ اطلاع یا پیغام کو سامعین تک پہنچانا ہی اس کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ اس میں عام طور پر سماجی مسائل اور تاریخی معاملات وغیرہ کو موضوع بنایا جاتا ہے۔

• ریڈ یو فیچر کی تیاری

1۔ تحریر

عام فہم زبان استعمال کی جائے تاکہ سامعین کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ ریڈ یو پرنٹر ہونے والا فیچر ہر طرح کے لوگ سنتے ہیں جن میں پڑھے لکھے، ناخواندہ، جوان، بولٹھے، مردوزن کے علاوہ اہل زبان اور غیر زبان داں شامل ہوتے ہیں۔ الفاظ کا انتخاب اور زبان کا استعمال ایسا ہونا چاہیے کہ ہر ایک تک ہماری بات پہنچ سکے۔ لکھنے وقت دورانیہ کے بھی ذہن میں رکھا جائے تاکہ فیچر کی طوالت طکی جاسکے۔

2۔ موسیقی

موضوع کی مناسبت سے موسیقی کا انتخاب بھی ضروری ہے۔ مثلاً اگر کوئی تاریخی فیچر ہے تو ستاری دھمکی و حسن لی جاسکتی ہے جب کہ سی اور پروگرام میں باسری وغیرہ کی وحسن استعمال کی جاسکتی ہے۔

3۔ صوتی تاثر (Sound Effects)

ریڈ یو فیچر میں صوتی اثرات نہایت اہم ہوتے ہیں ہے تاکہ سامعین کے تصور میں وہی پس منظر ابھر سکے جو تم محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے کسی اپتال کے پس منظر میں مریضوں کے کرائے، بچوں کے روئے اور لوگوں کی مزاج پریس کرنے کی آوازوں کے درمیان ڈاکٹروں کی بات چیت وغیرہ۔



4۔ انٹرو یو یا ساؤنڈ باکٹ

موضوع کی مطابقت سے کچھ باتیں یا آوازیں مختصر ایکارڈ کر لی جائیں تو فیچر مزید بہتر بن سکتا ہے۔ مثلاً جگر مراد آبادی پر اگر کوئی فیچر تیار کر رہے ہیں تو آں انڈیا ریڈ یو سے اُن کا کلام لیا جاسکتا ہے جو انہی کی آواز میں دستیاب ہے۔ اس طرح کسی سماجی مسئلے پر فیچر تیار کرتے وقت متأثرہ افراد سے بات چیت ریکارڈ کی جاسکتی ہے۔ ایک کامیاب ریڈ یو فیچر وہ ہے جسے سننے کے بعد سامع کو یہ احساس ہو کہ اُس نے کسی شخصیت سے ملاقات کی

ہے یا کسی موضوع کا احاطہ کر لیا ہے۔ ایک گھنٹے تا میں منت کاریڈیو فچر پیش کرنا اور سامعین کو پورے فچر کے دوران باندھ رکھنا، ایک بڑا جلسہ ہوتا ہے۔ اسی لیے موضوع کا انتخاب کرنے سے لے کر، اطلاعات و معلومات جمع کرنے اور پھر اس میں بیانیہ، مکالے، اشعار، موسیقی، نغمے اور ڈرامے کے امتحان سے فچر کی پیش کش کے قابل بنانے تک، فچر ساز کو نہایت باریک بینی اور محنت و استقامت سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔

2.3.3 ریڈیوٹاک



ریڈیوٹاک عام تقریر سے مختلف ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس میں بات چیت کا انداز احتیار کیا جاتا ہے۔ ٹاک کسی بھی موضوع پر ہو سکتی ہے۔ اس میں سیاسی، سماجی، اقتصادی یا ادبی موضوع پر اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ ٹاک لکھنے والا اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ سننے والوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ کسی موضوع پر کوئی تقریر سن رہے ہیں۔ انھیں یا حساس بھی نہ ہو کہ انھیں کسی کتاب سے کوئی اقتباس پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ اس کے بر عکس سننے والوں کو ایسا لگے کہ ٹاک دینے والا انھیں مخاطب کر کے ان سے بات کر رہا ہے۔ اس طرح سننے والوں کی معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اس میں دلچسپی بھی محسوس کرتے ہیں۔

آل انڈیا ریڈیو میں ہر زبان میں ٹاک یونٹ موجود ہے اور یہاں سے ہندوستان کی مختلف زبانوں کے علاوہ غیر ملکی زبانوں میں بھی ٹاک نشر کی جاتی ہیں۔ اردو کے حوالے سے آل انڈیا ریڈیو کے ولی اشیش کی ”اردو محلہ“ اور External Services Division کے تحت آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروں کے تحت ریڈیوٹاک نشر کی جاتی ہیں۔ اردو کے بہت سے ادیبوں نے اپنی آواز میں آل انڈیا ریڈیو پر ٹاک پیش کی ہیں اور یہ آر کائیوز میں محفوظ ہیں۔

❖ ریڈیوٹاک کی تیاری

ریڈیوٹاک لکھنے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ کسی کتاب سے نقل کی گئی نہ محسوس ہو۔ زبان عام فہم ہو، جملے بہت زیادہ طویل اور پیچیدہ نہ ہوں اور تحریر میں مناسب طور پر رموز اوقاف کا خیال رکھا جائے یعنی وقفہ یا ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ ریڈیوٹاک لکھنے کے لیے آپ اسی موضوع کا انتخاب کریں جس سے متعلق آپ مکمل معلومات رکھتے ہوں۔ 10 سے 15 منٹ میں اپنی بات کہنی ہے۔ ریڈیو میں وقت کی پابندی بہت اہم ہے۔

ریڈیوٹاک لکھنے کے بعد ریڈیوٹاک کی پیشکش کا مرحلہ آتا ہے۔ اسے اسٹوڈیو میں ماںک کے سامنے بیٹھ کر رکارڈ کیا جاتا ہے۔ عام طور پر جو شخص ٹاک لکھتا ہے وہی اسے اپنی آواز میں رکارڈ کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ آواز کی سطح زیادہ بلند ہونے زیادہ پست۔ ریڈیو میں۔ براؤڈ کا سرشکی خوبی ہے کہ وہ اپنی آواز اور انداز سے سامعین کی توجہ حاصل کرے۔

2.3.4 ریڈیو انترویو

ریڈیو پر نشر ہونے والے انٹرویو پبلے سے ریکارڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی کسی اہم شخصیت کا انٹرویو براہ راست بھی نشر کیا جاتا ہے۔

براہ راست انٹرویو میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے جب کہ ریکارڈ کیے جانے والے انٹرویو میں غیر ضروری چیزوں کو نکالنے کی لگبھائش ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انٹرویو پہلے ریکارڈ کر لیا جائے اور پھر نشر کیا جائے۔ موضوعاتی اعتبار سے ریڈیو کی اس نشریاتی صنف میں بہت وسعت ہے۔ اس کے ذریعے مختلف فنون کے ماہرین اور شخصیات کا انٹرویولیا جاسکتا ہے۔

اس کے علاوہ کسی جشن، نمائش، میلے یا تقریب یا پھر کسی واقعہ یا حادثے کی بر موقع روپورٹ پیش کرنے کی غرض سے وہاں موجود عوام کے تاثرات معلوم کیے جاتے ہیں۔ یہ تاثرات اور مشاہدات بھی ریڈیو پر نشر ہوتے ہیں۔

♦ انٹرویو کی تیاری

ریڈیو انٹرویو کے لیے شخصیت کے انتخاب اور سوالات کی تیاری میں کم و بیش انھیں با توں کا خیال رکھا جاتا ہے جنہیں اخبارات کے لیے انٹرویو کے دوران پیش نظر رکھتے ہیں۔ لیکن چوں کہ یہاں سامعین کو انٹرویو دینے والے شخص کی آواز سننے کا موقع ملے گا اس لیے ممکن ہے کہ سامعین کے لیے اس شخصیت کی آواز انتہائی توجہ کا باعث ہو۔ انٹرویو دینے والے سے سوالات اس طرح کیے جائیں کہ سمجھیدہ با توں کے ساتھ ساتھ کوئی مزاحیہ پہلو بھی سامنے آئے تاکہ سامعین اس میں زیادہ دلچسپی محسوس کریں۔ انھیں لگے کہ ریڈیو کے ذریعے انھیں اپنی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں انھیں کی آواز میں ہلکے چلکلے انداز میں بہت سی معلومات مل رہی ہیں۔

ریڈیو پر چوں کرتا میں سنی جائیں گی اس لیے تلفظ کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تلفظ کی ادائیگی میں غلطی ہو جائے اور سامعین کی طبیعت پر گراں گزرے۔

ریڈیو میں وقت کی پابندی لازمی ہے اسی لیے ریڈیو انٹرویو کرتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ انٹرویو کتنی دیر کرنا ہے تاکہ ضرورت سے زیادہ ریکارڈ نگ نہ ہو جائے۔ مقررہ وقت کا خیال رکھیں اور اسی کے حساب سے انٹرویو کو مکمل کریں۔

ریڈیو کے لیے عام طور پر انٹرویو اسٹوڈیو بھی لیے جاتے ہیں لیکن اب انٹرویو اسٹوڈیو سے باہر بھی کیا جاسکتا ہے یعنی اس اسارت فون یا ایسے کسی دیگر GADGET پر اسے ریکارڈ کیا جاسکتا ہے جس کی آڑیو کو اٹھی بہتر ہو۔ اس وقت سبھی ریڈیو اسٹیشنوں میں ایڈیٹنگ کی کمپیوٹر انٹریشنیں عام ہیں۔ ان کی مدد سے انٹرویو کو EDIT کرنے کے بعد ہی اسے نشر کیا جانا چاہیے۔

2.3.5 ریڈیو مباحث

ریڈیو پر مباحثے کے لیے ایک موضوع پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے۔ جس موضوع پر مباحثہ ہے اسی شعبے سے تعلق رکھنے والے حضرات کو مدعو کیا جاتا ہے تاکہ وہ بہتر طور پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ کسی بھی مباحثے میں COMPERE کا مرکزی روپ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اسے ایک سمت عطا کرتا ہے، گفتگو کو آگے بڑھاتا ہے اور وقتوں قدر سے اپنی بات بھی رکھتا ہے۔ اپنی بات رکھنا بھی ضروری ہے کیوں کہ ایسا نہ لگے کہ وہ ہال

میں ہاں ملارہ ہے۔ موضوع کے حوالے سے ماڈیریٹر کو مکمل اور تفصیلی معلومات ہونی چاہیے۔ پہلے سے ہوم ورک کر لیں یعنی سوالات تیار کر لیں اور معلومات کیجا کر لیں۔ کسی بھی مباحثہ میں ریڈی یو پر خاص طور سے تمن سے پانچ لوگوں کی شرکت مناسب رہتی ہے۔ ریڈی یو کے لیے مباحثہ 30 منٹ سے 45 منٹ تک ہوتا ہے۔ اس دورانی کو ڈہن میں رکھ کر ماڈیریٹر کو سمجھی شرکا کو برآمد موقع دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی کی طرفداری کا احساس نہ ہو اور نا ایسا لگ کہ ماڈیریٹر اپنے خیالات پر بحند ہے بلکہ شرکا کے جوابات سے متاثر اخذ کر کے مباحثہ کو اختتام تک پہنچائے۔

مباحثہ میں جذبات پر قابو کھانا ضروری ہے۔ ضرورت سے زیادہ جذبات ریڈی یو نشریات کے لیے مناسب نہیں اور مباحثہ میں ایک خوش گوار ماحول قائم رکھنا بھی ماڈیریٹر کی ذمہ داری ہے۔ جب کوئی اپنی بات کہہ رہا ہو تو اسے اپنی بات مکمل کرنے دیں رخصہ نہ ڈالیں۔ بحث بھر پور ہو تکرار نہ ہو۔ نظریات کا لکڑا تو ہو گا اس کے لیے کسی بھی موضوع پر متفاہ خیالات رکھنے والے افراد کو مباحثے کے لیے معوکیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ صرف جماعت میں بولنے والے ہی اشخاص موجود ہوں۔ کسی مباحثے میں سامعین کی دلچسپی کے لیے ضروری ہے۔ ریڈی یو کے لیے مباحثہ ایسا مضبوط پلیٹ فارم ہے جہاں صحت مند گفتگو کے ذریعے سامعین تک کسی خاص موضوع سے متعلق معلومات اور دلائل پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔

2.4 ریڈی یو جاکی

ریڈی یو جاکی کا تصور نیا ہے۔ ایف ایم چیللوں کے متعارف ہونے کے بعد ریڈی یو ادا نسیاری ریڈی یو پر یز نیشنر کی جگہ ریڈی یو جاکی نے لے لی اور آج یہ روزگار کا ایک پرکشش ذریعہ ہے۔ اسے عرف عام میں RJ کہا جاتا ہے۔ ایف ایم ریڈی یو نے آج باقاعدہ ایک مکمل صنعت کی صورت اختیار کر لی ہے اور ہندوستان میں بھی اس نے کم وقت میں چھوڑنہ ترقی کی ہے۔ اس میدان میں خاص کر نوجوانوں کے لیے ریڈی یو جاکی بننے کے بھرپور امکانات موجود ہیں۔

ریڈی یو جاکی کے لیے کوئی طے شدہ فارمولہ نہیں ہے۔ ہر جا کی اپنی منفرد صلاحیتوں کے اعتبار سے شہرت اور مقبولیت حاصل کرتا ہے۔ البتہ اس میں کچھ صلاحیتوں اور خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ مثلاً:

- دل کش آواز
- آواز کا اتار چڑھاؤ اور اندازِ پیش کش
- منفرد لب ولجه
- درست تلفظ
- زبان پرقدرت اور روانی
- حاضر دماغی اور حاضر جوابی
- خود اعتمادی اور بے باکی
- جوش اور ولاء
- تخلیقیت

- متن کی تحریر میں مہارت
- حالات حاضرہ سے واقفیت
- شگفتگی اور خوش مزاجی
- موسیقی کا ذوق و شوق

ریڈ یوجا کی انھیں صلاحیتوں اور خوبیوں کی وجہ سے زبردست مقبولیت حاصل کرتے ہیں۔

ایک ریڈ یوجا کی مقررہ دورانیہ میں پروگرام پیش کرتا ہے۔ اس کی مکمل تیاری اسے کرنی ہوتی ہے۔ پروگرام کی نوعیت کے لحاظ سے نغموں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ موسیقی کا انتخاب پروگرام کے مودا اور سامعین کی دلچسپی کے موافق ہونا ضروری ہے۔ ریڈ یوجا کی انداز گفتگو اور دل کش موسیقی سے سامعین کو متوجہ رکھتا ہے۔ ریڈ یوجا کی بالکل ایسے بات کرتا ہے جیسے وہ اپنے کسی دوست سے گفتگو کر رہا ہو۔ کچھ پروگراموں میں سامعین سے بھی راست گفتگو ہوتی ہے۔ ان کے پیغام شامل کیے جاتے ہیں اور مہمان بھی مدعو کیے جاتے ہیں۔ ریڈ یوجا کی کوئی بھی موضوع پر پروگرام پیش کرنے کو کہا جاسکتا ہے۔ اسی لیے اسے ذہنی طور پر تیار ہنا چاہیے۔ ریڈ یوجا کی کانبیادی کام سامعین کی تفریح ہے۔ البتہ اس ریڈ یوجا کی کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں جو معلومات اور ثابت پیغام بھی سامعین تک پہنچاتا ہے۔

ایک ریڈ یوجا کی یا ZR سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ جسمہ جہت صلاحیتوں کا مالک ہو اور ہر طرح کا پروگرام کر پائے۔ پروگرام کو پیش کرنے سے قبل ایک خاکہ اس کے ذہن میں ہو اور پھر وہ اسے تحریری طور پر تیار کر لے۔ ریڈ یوجا کا بنیادی اصول لکھ کر بولنے کا ہے لیکن ایف ایم ریڈ یوجو بر جنگلی کی بہت گنجائش ہے۔ بات سے بات بنانے کا فن یہاں بہت کام آتا ہے اور سامعین کو متوجہ کرتا ہے۔

2.5 ٹیلی ویژن

ہندوستان میں ٹیلی ویژن کا آغاز 15 ربیعہ، 1959 کو یونیسکو کے ایک پروجیکٹ کے تحت ہوا۔ اس کا مقصد سماجی بیداری اور تعلیم کا فروغ تھا۔ اس کے پروگرام ایک گھنٹے پر میں ہوتے تھے جنہیں بہت سی میں دوبارہ شرکیا جاتا تھا۔ آل انڈیا ریڈ یو نے 1961 میں اسکول ٹیلی ویژن کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا۔ اس وقت ٹیلی ویژن آل انڈیا ریڈ یو کے ماتحت تھا۔ اس پروجیکٹ کا مقصد اسکولوں میں تعلیمی نصاب سے متعلق ایک گھنٹے کا پروگرام شروع کرنا تھا۔ 15 اگست 1965 کو روزانہ سروں کے طور پر ٹیلی ویژن کی ابتداء ہوئی۔ 1972 میں بھی ٹیلی ویژن سینما کی قیام عمل میں آیا۔ ابتداء میں اس کے پروگرام روزانہ ڈیڑھ گھنٹے نشر کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد 1975 تک کئی ٹیلی ویژن سینما قائم ہو گئے، جن میں سری نگر، امرتسر، ملکتہ، مدراس اور کھنڈو وغیرہ اہم ہیں۔ 1975 میں ہندوستان میں سیلیا سٹ سینما قائم ہو گئے، جن میں سری نگر، امرتسر، ملکتہ، مدراس اور کھنڈو وغیرہ اہم ہیں۔ 1975 میں ہندوستان میں سیلیا سٹ کے ذریعے پروگراموں کو نشر کرنے کی ابتداء ہوئی۔ اس کے تحت ان علاقوں میں بھی ٹیلی پروگراموں کی رسائی ہو گئی جہاں زمینی اسٹیشنوں سے ممکن نہ تھی۔ اب دمکنی علاقوں سے متعلق کاشنگاری، آپاشی اور دیگر سماجی مسائل پر مبنی پروگراموں کو پیش کیا جانے لگا۔ کم جنوری 1976 سے ٹی وی کا کمرشیل استعمال ہونے لگا۔ 15 اگست 1982 میں رنگین ٹیلی ویژن نشایات کا آغاز ہوا۔ مارچ 1999 کے پاس 1000 ٹرانس میٹر اور 2- DD (میٹر و چین)

عوامی ذرائع ابلاغ

کے پاس 57 ٹرانسمیٹر تھے جن کے ذریعے ٹی وی آبادی کے 87.9% تک پہنچ چکا تھا۔ آج اس کی رسائی دنیا کے ہر خط تک ہو چکی ہے۔ ٹیلی ویژن اپنی ترقی کی میزبانیں طے کرتے ہوئے اب تعلیم، تفریح اور اطلاع کا ایک اہم اور مؤثر ذریعہ بن چکا ہے۔ ٹیلی ویژن کے نشریاتی نظام میں متعدد تصویری اطلاعات کو یکارڈ کر کے الیکٹرینک سگنل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ایسے الیکٹرینک سگنل، ویڈیو سگنل میں منتقل ہو کر ٹی وی اسکرین پر شیئی کی شکل میں نظر آتے ہیں۔

2.6 ٹیلی ویژن پروگرام

ٹیلی ویژن پر مختلف معلوماتی اور تفریحی پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ یہاں چند اہم پروگراموں کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔

2.6.1 ٹیلی خبر

ٹیلی ویژن نشریات میں خبرنگاری کو اہم مقام حاصل ہے۔ اس میں آواز اور تصویروں کو ہم آہنگ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ تصویروں کی حیثیت زبان کی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تصویریں بہت کچھ بولتی ہیں۔ ٹیلی خبر میں جو جیزیریں تصویریں دکھائی دے رہی ہوں، انھیں صرف لفظوں کے ذریعے نہیں بیان کیا جاتا۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ تصویروں اور لفظوں میں ہم آہنگی ہو۔ ٹیلی خبر کی پیش کش میں متواتر تبدیلیاں رونما ہوتی رہی ہیں۔ دوردرشن پر نشر ہونے والی خبروں میں سمجھیگی کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے۔ البتہ جیتنا لوں پر خبروں کے نشریے میں مختلف طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں۔ اکثر خبروں کو وہ ایسے ڈرامائی انداز سے پیش کرتے ہیں جس میں اطلاعات کے ساتھ ساتھ تفریح کا سامان بھی ہوتا ہے۔



اطہار اور ذرائع اطہار

ٹیلی خبر کی زبان بھی سادہ اور سلیمانی ہوتی ہے۔ ناظرین کو اس کی زبان آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہاں غیر ضروری باتوں سے پر ہیز کیا جاتا ہے کیونکہ الیکٹرائیک میڈیا میں وقت کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔
ٹیلی خبر کے اہم عنصر مندرجہ ذیل ہیں:

♦ سرخی (Headline)

سرخی کسی خبر کا اہم حصہ ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے خبر کی خاص باتیں ناظرین تک پہنچائی جاتی ہیں۔ سرخی میں ایسی کشش ہوتی ہے جو اپنے ناظرین رسمیت میں کوپوری خبر سننے یا دیکھنے کے لیے متوجہ کرتی ہے۔ سرخی کو مختصر اور کسی سلوگن یا انعرے کی طرح پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں سلوگن یا انعرے سے مراد یہ ہے کہ سرخی کی صورت یا ساخت مکمل جملے کی نہیں ہوتی ہے۔ نیوزبلینن میں ایک پرمو تیار کیا جاتا ہے جس میں چند اہم خبروں کی سرخیاں جمع کر لی جاتی ہیں۔ سرخی تیار کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سرخی وقت اور تصویروں میں ہم آہنگی ہو۔ سرخی کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ سامعین کے جسم کو برقرار رکھے۔ اس کی زبان آسان اور براور است ہوئی چاہیے۔ طویل اور غیر ضروری الفاظ سے پر ہیز کرنا چاہیے۔

♦ انکر اسکر پٹ (Anchor Script)

ٹیلی خبر میں انکر یعنی نیوز ریڈر کے لیے اسکر پٹ تیار کی جاتی ہے۔ یہ کسی بھی خبر کا پہلا حصہ ہوتی ہے۔ اس میں خبر کی اہم باتوں کو چار سے پانچ سطروں میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ انکر اسکر پٹ، نیوز ریڈر کے سامنے کمپیوٹر کے اسکرین پر موجود ہوتی ہے جسے وہ دیکھ کر پڑھتا ہے لیکن سامعین کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بغیر دیکھنے خبریں پڑھ رہا ہے۔ انکر اسکر پٹ مختصر ہوتی ہے اور اس میں خبر کو مختصر اپیش کیا جاتا ہے لیکن اسے سننے کے بعد سامعین میں مکمل خبر کو جاننے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی خبر جس میں انکر خبر کو پڑھے اور وائس اور کے بغیر صرف ویژلز (Visuals) کا استعمال کیا جائے تو اسے 'ڈرائی نیوز' کہتے ہیں۔ اگر انکر وائس اور (Voice Over) اور بیان (Byte) کے بغیر زیادہ خبروں کو مسلسل پڑھتا جائے، تو اسے 'اسپیڈ نیوز' کہا جاتا ہے۔ اگر نیوزبلینن کے درمیان کوئی اہم خبر پیش کی جائے تو اسے 'بریکنگ نیوز' کہتے ہیں۔

♦ وائس اور (Voice Over)

ٹی وی اسکرین پر جب خبر دکھائی جاتی ہے اور اس وقت پس منظر سے جو آواز آتی ہے تو اسے وائس اور کہتے ہیں۔ عام طور پر طویل خبروں میں وائس اور کا استعمال ہوتا ہے۔ ایسی خبروں میں یہاں ایک سے زائد وائس اور کا استعمال ہوتا ہے وہاں اسکر پٹ پر وائس اور - 1، وائس اور - 2 اور وائس اور - 3 لکھ دیا جاتا ہے۔ وائس اور میں خبروں کی تفصیل پیش کی جاتی ہے۔ خبر میں وائس اور کی تعداد ضرورت کے اعتبار سے طے کی جاتی ہے۔ ٹیلی ویژن کی زبان میں ایک مکمل خبر کو پہنچ کہا جاتا ہے۔ جس میں انکر اسکر پٹ + وائس اور - 1 + بائث (بیان) + وائس اور - 2 + بائث (بیان) + پیس ٹو کیمروں (PTC) کا ذکر ہوتا ہے۔ نیوز اسکر پٹ تیار کرنے کے بعد ریکارڈنگ روم

میں واکس اور کوریکارڈ کیا جاتا ہے اور اسے ایڈیٹنگ روم میں ویڈیو فوٹج کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک نیوز اسٹوری تیار ہو جاتی ہے۔ تیار شدہ خبر کی فائل یا ہی ڈی پرنٹر کا عنوان اور دورانیہ درج کر دیا جاتا ہے۔

❖ بیان (Byte)

ٹوی خبر میں کسی فرد یا اہم شخصیت کے بیان کی اہمیت ہے۔ بیان کا استعمال خبر کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس سے سامعین میں خبر کی صداقت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ خبر کی روپرٹنگ میں عام طور پر کسی چشم دیدیا کسی ذمہ دار شخص کا بیان لیا جاتا ہے۔ روپرٹر بعض اوقات کسی حداثے یا جلسے حلوں کی جگہ سے لوگوں کے تاثرات جانے کے لیے لائیو انٹرو یو بیانٹ پیش کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے خبر کی تازگی اور کشش میں اضافہ ہو جاتا ہے اور خبر کو اعتماد کی سند حاصل ہو جاتی ہے۔ نیوز اسکرپٹ میں ایسے بامس کا استعمال واکس اور کے بعد ہوتا ہے۔

❖ عنوان یا سلگ (Slug)

نیوز اسکرپٹ میں ہر خبر کو ایک سلگ یا عنوان دیا جاتا ہے۔ اسی عنوان کے تحت اس خبر کو تیار کر کے اسے ٹیلی کا سٹ کیا جاتا ہے۔ خبر کا عنوان بہت مختصر ہوتا ہے۔ عنوان سے خبر کی شناخت ہوتی ہے۔ مثلاً نیوز اسکرپٹ، روکارڈنگ، کاپی ایڈیٹر، کمپیوٹر آپریٹر، ٹینکل ایڈیٹر اور پیپل پر ڈی یو سر کے پاس تمام خبروں کی ایک فہرست ہوتی ہے۔ جس پر خبر کا عنوان درج ہوتا ہے۔ پیپل پر ڈی یو سر عنوان کی فہرست کے مطابق اپنے معاونین کی مدد سے خبروں کو سلسلے والی ٹیلی کا سٹ کرتا ہے۔

❖ پیٹی سی (Piece to camera)

روپرٹر جب کسی مقام سے اپنی روپرٹ پیش کرتا ہے تو اسے ٹیلی خبر کی اصطلاح میں پیٹی سی کہا جاتا ہے۔ روپرٹر عام طور پر خبر کے آخر میں پیٹی سی پیش کرتا ہے لیکن ضرورت کے اعتبار سے وہ خبر کے درمیان میں بھی پیٹی سی دے سکتا ہے۔ پیٹی سی میں روپرٹر خبر کا تجزیہ اور اپنی رائے پیش کرتا ہے۔ یہ خبر کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے۔ اس پیش کش سے خبر کی صداقت میں اضافہ ہوتا ہے اور روپرٹر کے فہم و ادراک کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔

ٹیلی خبروں کی ساخت اور پیش کش میں نئی تکنیکوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ٹیلی خبریں اپنی روایتی پیش کش سے بہت آگے نکل چکی ہیں۔ آج کل ٹوی وی چینلوں پر ان ڈورنڈا کرہ، آؤٹ ڈورنڈا کرہ، انٹرو یو، فون ان، ہوبائل جرنلزم، گراؤنڈ روپرٹنگ اور کرامر روپرٹنگ وغیرہ پرمنی متعدد نیوز پر گرام دیکھ جاسکتے ہیں۔

❖ متحرک پٹی (Ticker Scrolling)

ٹیلی ویژن اسکرین پر نیچے کی جانب ایک متحرک پٹی مسلسل چلتی رہتی ہے جسے میڈیا اصطلاح میں ٹکر اسکرونگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسکرونگ پٹی کے ذریعے اہم خبروں کو تحریری شکل میں اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد ناظرین کو تمام اہم خبروں سے آگئی اور ان کے متعلق مزید جانے کی تحریک پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اسکرونگ پٹی پر تازہ خبروں کو ہر وقت اپڈیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اسکرونگ خبر کی خوبی یہ ہے کہ ناظرین و سامعین سے عموماً کوئی بھی

خبر چھوٹے نہیں پاتی یعنی وہ جب بھی ملی وی سیت کے سامنے بیٹھتے ہیں، انھیں اسکرولنگ پٹی پر وہ خبریں نظر آ جاتی ہیں۔ اسکرولنگ خر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ دور دراز علاقوں سے اگر کوئی خر ٹیلی فون یا ایس ایم ایس کے ذریعے نیوز روم تک پہنچتی ہے تو اسے فوراً اسکرول پٹی پر درج کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ خبر لوگوں تک بُر وقت پہنچ جاتی ہے۔ اس میں ویڈیوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کسی مخصوص شخص کی راست تقریر کے اہم بیانات کو اسکرول پٹی پر درج کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اشتہار میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس عمل سے وقت اور اخراجات کی بچت ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ خبریں لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔

2.6.2 سیریل

ٹیلی ویژن نشریات میں سیریل کو بہت مقبولیت حاصل ہے۔ یقفرنگ کا انتہائی دلچسپ ذریعہ ہے۔ اپنے خالی اوقات میں لوگ مختلف سیریل دیکھ کر محظوظ ہوتے ہیں۔ سیریل بنانے والے اپنے ناظرین کا خصوصی خیال رکھتے ہیں۔ وہ ناظرین کی پسند کے پیش نظر ہی سیریل کے موضوعات اور ٹیلی کاست کے وقت کا تعین کرتے ہیں۔ تکنیک، موضوع، مواوہ اور پیش کش کے اعتبار سے سیریل، فلمی ڈراما اور ٹیلی فلم سے بہت مختلف ہے۔ اگرچہ ڈرامائی پیش کش تینوں اصناف میں موجود ہے لیکن کہانی کا دائرہ کار چدا گانہ ہے۔ ٹیلی ڈراما کا دورانیہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے پر بھیت ہوتا ہے جب کہ سیریل مہینوں اور برسوں تک جاری رہتے ہیں۔ سیریل کے موضوعات کا کہیوں وسیع ہوتا ہے۔ اس میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ اسے طویل مدت تک پیش کیا جاسکے۔ طوالت کے معاملے میں سیریل، داستان اور ناول کے بہت قریب ہوتے ہیں۔

سیریل کی کہانی کو پہلے قسطوں (Episodes) میں تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ ایک اپی سو ڈیام طور پر آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے۔ جس میں عموماً آٹھ منٹ کے اشتہار کی جگہ بھی مخفی ہوتی ہے۔ ایک اپی سو ڈیام سلسلے والی کہانی کی ایک کڑی ہے۔ اگرچہ اپی سو ڈیام کا حصہ ہوتا ہے لیکن ہر اپی سو ڈیام طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ اس کی تکمیل اس طرح کی جاتی ہے کہ ناظرین کی دلچسپی قائم رہے۔ وہ ایک اپی سو ڈیام کو دیکھنے کے بعد مطمئن بھی ہو جاتے ہیں اور اگلے اپی سو ڈیام کے لیے ان کا تحسیں بھی برقرار رہتا ہے۔

ناظرین کی یخواہش ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ حصہ دیکھ سکیں۔ ناظرین کی دلچسپی قائم رکھنے کے لیے کرواروں کے مابین تکڑاؤ، بحث و تکرار، اونچی آواز میں گفتگو وغیرہ کا کہانی میں اہتمام لازمی ہے۔ بعض اوقات کرواروں کے درمیان جسمانی تکڑاؤ بھی دکھایا جاتا ہے۔ ایک اپی سو ڈیام کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ واقعات کے ایک ایسے موڑ پر اختتام کو پہنچے، جہاں ناظرین یہ جانے کے لیے بے چین ہو جائیں کہ اب اس کے بعد کیا ہو گا اور وہ اگلے اپی سو ڈیام کے لیے مجبور ہو جائیں۔

چوں کہ سیریل کی کہانی بہت طویل ہوتی ہے اس لیے اس میں کرواروں کی بہتان ہوتی ہے۔ یہاں ہر کروار کی اپنی کہانی ہوتی ہے۔ ہر اپی سو ڈیام میں ان کی شناخت کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کروار اپی سو ڈیام تک اسکرین سے باہر رہا تو وہ ناظرین کے دل و دماغ سے دور ہو سکتا ہے۔ سیریل کا اسکرپٹ بھاگر ضرورت کے تحت جب چاہے



عوایز ذرا کم ابلاغ



کسی کردار کو مردہ قرار دیتا ہے اور جب چاہے انھیں زندہ کر دیتا ہے۔ سیریل کے موضوعات زیادہ تر سازش، انتقام، گلرو اور بحث و تکرار کے اردو گلوبھوتے نظر آتے ہیں۔ ان کے علاوہ تہذیبی، تاریخی، مذہبی، ادبی اور مزاجیہ موضوعات پر بھی سیریل ہوتے ہیں۔

سیریل میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں۔ اس لیے ان میں معنوی ربط اور تسلیل لازمی ہے۔ سیریل کی کہانی میں دلچسپی قائم رکھنے کے لیے پہلے مسئلہ پیدا کیا جاتا ہے اور اس مسئلے کو نقطہ عروج اور انجام تک پہنچانے کے لیے تقریباً تیرہ سے چھیس اپی سوڈا تیار کیے جاتے ہیں۔ کہانی میں ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرے مسئلے کی ابتداء ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ آئندہ قسطوں میں جاری رہتا ہے۔ کہانی میں ناظرین کی دلچسپی اسی وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک اس میں کوئی مسئلہ، الحسن اور گلرا اور پیش ہو۔

سیریل میں واقعات کی پیش کش میں نفسیاتی اعتدال بھی ضروری ہے۔ انسانی جبلت ہے کہ وہ مسلسل ایک کیفیت میں نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اس کے نفسیاتی عمل کے پیش نظر ہی واقعات کی ترتیب ہونی چاہیے۔ مثلاً ایک اپی سوڈا میں اگر غم کی کیفیت پیش کی جائی ہے تو اسے بہت دریک مقام نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسی صورت میں ناظرین ڈھنی تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں لہذا نفسیاتی کیفیات کی پیش کش میں اعتدال ضروری ہے۔ سیریل کی کہانی کی خوبی یہ ہے کہ وہ داستان کی طرح قصہ درقصہ، واقعہ درواقعہ مسلسل بڑھتی رہتی ہے۔ سیریل میں متفرق واقعات کو کچھ اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف ہوتے ہوئے بھی آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔

❖ سیریل کی تیاری

سیریل کی کہانی کو سب سے پہلے قسطوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ سیریل کی ایک قطعہ عام طور پر آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے جس میں تقریباً آٹھ منٹ کے اشتہار ہوتے ہیں۔ سیریل کی کہانی چوں کو طویل ہوتی ہے لہذا اس میں ناظرین کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر لمحہ تضاد، تجسس اور رکھش کی صورت قائم رکھنی ہوتی ہے۔ سیریل میں کہانی کو واقعہ درواقعہ کئی قسطوں میں پیش کیا جاتا ہے جب کوئی واقعہ اپنے نقطہ عروج کو پہنچ جاتا ہے تو تو دوسرے واقعے کی ابتداء ہوتی ہے اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سیریل کے ہر اپی سوڈا کی کہانی کچھ اس طرح لکھی جاتی ہے کہ اس کے تمام اہم کردار مکالمے ادا کرتے ہوئے کسی نہ کسی شکل میں پردے پر نظر آ جائیں۔ آخر میں کہانی کو اس موڑ پر ختم



کیا جاتا ہے کہ ناظرین اگلے اپی سوڈ کو دیکھنے کے لیے بے صبری سے انتظار کریں۔ اس میں کردار بہت تیزی سے پردے پر آتے ہیں اور انہاروں ادا کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ سیریل کی اسکرپٹ لکھنے کے لیے اسے دو حصوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں مکالمہ اور دوسرے میں اسکرین پلے یعنی منظر نامہ لکھا جاتا ہے۔ ہر اپی سوڈ کی اسکرپٹ میں کرداروں کے نام، دن برات، ان ڈور آٹ ڈور اور لوکیشن درج کر دیے جاتے ہیں۔ کہانی کو مکالے کی شکل میں آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اس کے سامنے دوسرے حصے میں منظر نامہ لکھا جاتا ہے۔ تاکہ کہانی کو فلم بند کرتے وقت منظر نامے سے مددی جاسکے۔ اس طرح یہ سلسلہ ہر اپی سوڈ میں جاری رکھا جاتا ہے۔

سیریل میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی تاریخ یا تہذیب کی پیش کش کی جا رہی ہے تو اس کی حقیقی تصویر یہ منظر عام پر آئے۔ تاریخ اور تہذیب سے چھیڑ چھاڑ یا کسی قسم کی تبدیلی دشواری کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کہانی میں تحسیں اور ڈرامائیت ہر لمحہ برقرار رکھنی چاہیے تاکہ ناظرین کی دلچسپی ہر اپی سوڈ میں قائم رہے۔

2.6.3 ٹیلی فلم (Telefilm)

ٹیلی فلم ٹیلی ویژن کی ٹیلی اشیاء کی ایک صنف ہے۔ موضوع، مواد اور مقاصد کے اعتبار سے یہ ٹیلی ڈرامے قریب لیکن تکنیک کے اعتبار سے مختلف ہے۔ ٹیلی ڈرامے کی تشکیل اور پیش کش اسٹوڈیو پر ہوتی ہے۔ اس لیے میں اسٹوڈیو کے لوازمات اور تقدیموں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے جب کہ ٹیلی فلم کی تشکیل اور پیش کش کا انحصار آٹ ڈور شوٹنگ پر ہوتا ہے۔ آٹ ڈور شوٹنگ کی وجہ سے ٹیلی فلم میں کئی ایسی باتوں کی گنجائش ہوتی ہے جو ان ڈور شوٹنگ میں ممکن نہیں ہے۔ اس میں دلچسپ اور متحرک مناظر کی پیش کش میں آزادی ہوتی ہے۔ اس میں کھلے آسمان، اڑتے پرندے، اچھتے کو دتے جانور، جھیل جھرنے، بے کراں سمندر، اونچے نیچے پہاڑ، سڑکوں پر دوڑتی گاڑیاں، بازار کی چیل پہل اور فطرت کے پرکش مناظر کو پیش کرنے کی پوری گنجائش ہوتی ہے۔ ایسے مناظر سے فطری اور حقیقی ہونے کا تاثر ابھرتا ہے۔ جب کہ ٹیلی ڈراموں میں اسٹوڈیو کی پابندی کی وجہ سے اس کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔

ٹیلی فلم اور فیچر فلم بھی موضوع اور تکنیک کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ ٹیلی فلم چھوٹے پردے یعنی ٹیلی ویژن کے لیے بہانی جاتی ہے جب کہ فیچر فلم بڑے پردے کے لیے۔ اس لیے مناظر اور صورت حال کی فلم بندی کرتے وقت اس بات کا لاحاظہ رکھا جاتا ہے کہ چھوٹے پردے کے لیے کیا مناسب ہے۔

ٹیلی فلم میں نقائی سیٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے مناظر حقیقی اور اصلی ہوتے ہیں۔ اس لیے آٹ ڈور لوکیشن کی تلاش اور فلم بندی میں غور و خوض کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیلی فلم میں عام طور پر ایک ہی کیسرے کا استعمال ہوتا ہے۔ جس کے سبب کیسرے کا زاویہ بار بار بدلتا رہتا ہے۔ زاویہ بدلتے سے روشنی کے اہتمام کو بھی بدلتا ہے۔ کرداروں کی موثر تصویریں پیش کرنے کے لیے فلم بندی میں اچھی مہارت ہونی چاہیے۔ کیوں کہ بہاں ایک ہی کیسرے سے ہر زاویے کو فلم بند کرنا ہوتا ہے۔

ٹیلی فلم میں آٹ ڈور شوٹنگ کی وجہ سے شور و غل کا مسئلہ بھی سامنے آتا ہے۔ ایسی صورت میں اسٹوڈیو میں مکالموں کی ڈبنگ کرنی پڑتی ہے۔



ٹیلی فلم کے موضوعات ٹیلی ڈراما اور فیچر فلم کے مماثل ہو سکتے ہیں لیکن ٹیلی فلم کی مدت مختصر ہوتی ہے۔ اس کا اصل مقصد تفریح فراہم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم، معلومات عامہ اور سماجی مسائل کو دلچسپ انداز میں پیش کرنا بھی اس کے مقاصد میں شامل ہے۔

پہ ٹیلی فلم کی تیاری

ٹیلی ویژن کے پیش نظر بنائی گئی فلم کو ٹیلی فلم کہا جاتا ہے۔ اس لیے ٹیلی فلم کی کہانی لکھتے اور بناتے وقت ٹیلی ویژن کے لوازمات اور تقدیموں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ٹیلی فلم چھوٹے پردے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اس کے ٹکنیکی وسائل محدود ہوتے ہیں اور فیچر فلم کے مقابلے مختصر ہوتی ہے۔ اس لیے ٹیلی فلم کی اسکرپٹ لکھتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ٹیلی فلم میں تفریح فراہم کرنے کے علاوہ پیغام بھی دینا مقصود ہوتا ہے۔ لہذا سماجی مسائل کو تفریخی پیرائے میں پیش کرنا اس کی بڑی خوبی ہے۔ اس میں کسی ایک منسلے پر ہی توجہ مرکوز کی جاتی ہے تاکہ اصل پیغام برقرار رہے۔ اس میں کہانی لکھنے اور اسے فلم بند کرنے کے وہی لوازمات اختیار کیے جاتے ہیں جو فیچر فلموں کے ہوتے ہیں۔ ٹیلی فلم کی اسکرپٹ میں بھی سین نمبر، کرداروں کے نام، لوکیشن، دن، رات، ان ڈور آؤٹ ڈور، مکالمے اور منتظر نامے لکھتے جاتے ہیں۔



2.7 سینما / فلم

ہندوستان میں سینما کا باقاعدہ آغاز فلم 'شری پنڈولیک' سے ہوا۔ یہ فلم 18 جون 1912 کو یلیز ہوئی۔ اسے فلم ساز، ہدایت کار اور اسکرپٹ رائٹر دادا صاحب چاکے نے بنایا تھا۔ 1913 میں انہوں نے دوسرا خاموش فلم راجا ہریش چندر بنائی۔

ہندوستان میں خاموش سینما کا دور 1931 تک رہا۔ پہلی بولتی فلم 'علم آڑا' 1931 میں منتظر عام پر آئی۔ 1940-50 کی دہائی میں کئی فلم سازوں نے فلمی صنعت کو استحکام عطا کیا۔ ان میں وی شانتارام، راج کپور، کے آصف اور محبوب خال کے نام اہم ہیں۔ فلمی دنیا میں اردو کے ادیبوں کی خدمات ناقابل فرماؤش ہیں۔ انہوں نے فلم کی کہانی لکھنے، مکالمہ نگاری اور گیت کار جیسے سچی اہم شعبوں کو مستحکم کیا اور مقبولیت عطا کی۔

متوازی سینما تحریک کو 1940-60 کے دوران ستیہ جیت رے، بیت وک گھنک، بھل رائے، مرنال میں، خواجہ



احمد عباس، پھینن آنند اور گروڈت جیسی شخصیات کے ذریعے شاخت ملی۔ اس زمانے کو ہندوستانی آرٹ سینما کا 'سنہری دور' مانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کرشیل فلموں کی مقبولیت روزافزوں پر چلتی گئی۔ مدر انڈیا، مغل اعظم، شعلے اور دل والے دہنیا لے جائیں گے، جیسی کرشیل فلموں نے وہ مقام حاصل کیا کہ آج بھی انھیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ابتدائی زمانے سے ہی سینما کو تفریح کے سب سے طاقت ور میدیم کے طور پر مقبولیت حاصل رہی ہے۔ ہندوستانی سماج میں آج بھی فلمیں تفریح کا سب سے اہم ذریعہ ہیں۔ موضوع اور پیش کش کے اعتبار سے فلم کی متعدد اقسام ہیں۔ مثلاً فوج فلم، آرٹ فلم، ڈاکمیٹری فلم، شارٹ فلم اور اشتہاری فلم وغیرہ۔

2.7.1 فیچر فلم

فیچر فلم تفریحی میدیا کی ایک مقبول ترین صفت ہے۔ یہ کہانی کو پیش کرنے کا ایک موثر سمعی و صدری میدیم ہے۔ اس میدیم میں کہانی کو بیان نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے واقعات کو عملی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ فلم کی کہانی کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں کہانی کا تعارف ہوتا ہے۔ اس حصے کو فلم کی اصطلاح میں کہانی کو Establish یعنی قائم کرنا کہتے ہیں۔ ڈھانی سے تین گھنٹے کی فلم میں اس حصے کو بیس سے پچس منٹ میں ختم کر لیا جاتا ہے۔ اس حصے کی کامیابی اس بات میں ہے کہ کہانی اس سلسلے سے دوسرے حصے سے مر بوط ہو جائے کہ روانی برقرار رہے۔ کہانی کا دوسرا حصہ طویل ہوتا ہے۔ اس میں کہانی کے متعدد واقعات یکے بعد دیگرے اسکرین پر آتے رہتے ہیں۔ تین گھنٹے کی فلم میں یہ حصہ دو سے سو اد و گھنٹے عروج Climax شروع ہوتا ہے۔ کہانی میں نقطہ عروج کا حصہ بہت نازک اور حساس ہوتا ہے۔ کہانی جب اپنے نقطہ عروج پہنچ جاتی ہے تو ناظرین کو اس کے انجمام کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے اور وہ زیادہ دریکٹ اس کا انتظار نہیں کر سکتے، اس لیے اس حصے کو بارہ سے پندرہ منٹ میں ختم کر لیا جاتا ہے۔

فلم میں کہانی کی ابتداء لچک پھونی چاہیے۔ ناظرین کی دلچسپی اور تحسیں کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ کہانی میں متعدد صورت حال کی پیش کش میں اعتدال رکھنا چاہیے۔ کہانی میں مزاح، سنجیدگی اور تصادم کا حسین امتحان ہوتا ہے۔ گیت اور موسیقی سے بھی فلم کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ کسی فلم کی کامیابی میں جس طرح گیت کا اور موسیقار کا کردار ہوتا ہے اسی طرح مکالمہ نگار کا بھی اہم روپ ہوتا ہے۔ فلم کی کہانی لکھنے کے بعد علاحدہ طور پر مکالمہ لکھا جاتا ہے۔ کچھ فلموں کے مکالمے اتنے مقبول ہو جاتے ہیں کہ وہ زمانے تک یاد رکھے جاتے ہیں۔

فلم مغلِ اعظم سے مکالمے کی مثال دیکھیں

سلیم! مہابلی کا سامنا صرف ایک لوٹنڈی کے لیے۔

جودہ:

نہیں! اس کے لیے جو میرے عہد میں مغروہ مغلوں کی آبر او رہندوستان کی ملکہ بنے گی۔

شہزادہ سلیم:

ہرگز نہیں! خود ار مغلوں کی آبرو، اتنی بھلی نہیں کہ ایک ناچیز لوٹنڈی کے برائٹل جائے۔ اور ہمارا ہندوستان کوئی تمہارا اول نہیں کہ لوٹنی جس کی ملکہ بنے۔

جودہ:

اویمیرا اول بھی آپ کا کوئی ہندوستان نہیں جس پر آپ حکومت کریں۔

شہزادہ سلیم:

تمہارے دل پر ہمارا کوئی اختیار نہیں لیکن خود تم پر ہمارا اختیار ضرور ہے۔ آخر تم ہماری اولاد ہو۔ ہاں میں آپ کی اولاد ہوں مگر مجھ پر ظلم ڈھاتے ہوئے آپ کو ذرا یہ سوچنا چاہیے کہ میں آپ کے جگہ کا نکڑا ہوں۔ کوئی غیر یا کوئی غلام نہیں۔

جودہ:

نہیں! سلیم نہیں۔

تم ہمارے برسوں کی پر ارتھناوں کا پھل ہو۔ ہماری زندگی بھر کا سرمایہ ہو۔ ہمارے لاڈ لے ہو۔ مگر یہ راحتی ہے۔ تم اس میں ہماری ممتا کو آواز نہ دو۔ ہماری گردن میں اپنی محبت کی زنجیر ڈال کر ہمیں ہمارے فرض کے دائرے سے باہر نہ کھینچو۔ ہماری ذمہ داری اور اپنے مرتبے کا لحاظ کرو۔ ہندوستان کی جان، رسوائی اور بدنامی کے گلے میں نہ آؤ۔ انارکلی کو اپنے دل سے نکال دو۔ میں تھیں اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں۔

شہزادہ سلیم:

آپ مجھ سے اپنے دودھ کا معاوضہ مانگتی ہیں۔

جودہ:

نہیں! سلیم نہیں۔

تو پھر یوں نہیں! وہ آپ کا دودھ جو خون بن کر میری رگوں میں جی رہا ہے کہیے تو وہ سب آپ کے قدموں میں بہاؤ۔ مگر مجھ سے اس کا سود وصول نہ کریں۔ مجھے اپنی قیمتی ہندوستان میں سے ایک ذرہ تک نہ دیں مگر انارکلی مجھے بھیک میں دے دیں۔ میں مہارانی جودہ کے جان و مال کا صدقہ اور شہنشاہ اکبر کی سلطنت کی خیرات مانگتا ہوں۔

شہزادہ سلیم:

فلم کے لیے اسکرپٹ لکھنا ضروری ہے۔ فلم اسکرپٹ کے دو حصے ہوتے ہیں پہلا حصہ مکالمہ اور دوسرا حصہ

منظرنامہ ہوتا ہے۔ فلم اسکرپٹ کو سب سے پہلے میں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ہر سین کا علاحدہ اسکرپٹ لکھا جاتا ہے۔ ہر سین کی ابتداء میں سین نمبر، دن/رات، لوکیشن، اندر/باہر اور کرداروں کے نام درج کر دیے جاتے ہیں۔ اس عمل سے ہدایت کار کو یہ آسانی ہوتی ہے کہ کس سین کو کس لوکیشن اور کس وقت فلم بند کرنا ہے اور کن کرداروں کو وہاں موجود رہتا ہے۔ فلم سازی کے دو اہم شعبے پروڈکشن اور ہدایت کاری ہیں۔ فلم کی شوٹنگ میں استعمال ہونے والی تمام اشیا کی فراہمی اور ضروریات کو پورا کرنا پروڈکشن شعبے کی ذمے داری ہوتی ہے۔ ہدایت کار کی ذمے داری فلم کی شوٹنگ مکمل کرنا ہے۔ ہدایت کار پروڈکشن شعبے سے ربط رکھتے ہوئے فلم کو مکمل کرتا ہے۔

شوٹنگ یا فلم بندی ایک فن ہے اور ہدایت کار کو اس فن میں مہارت ہوتی ہے۔ خیالات اور جذبات کو تصویر میں ڈھالنا بڑی فن کاری ہے۔ تصویر بھی تحریر کی طرح ایک زبان ہے اور وہ بہت کچھ بولتی ہے۔ تصویر کی زبان کو سمجھنا اور اسے اسکرین پر سیلیقے سے پیش کرنا ہی اصل فن ہے۔ تصویر کی زبان اور مکالموں کے مابین ہم آہنگی اور مطابقت ہونی چاہیے۔ میں کو فلم بند کرنے کے بعد میں نمبر اور اس کا دورانیہ درج کرنا ضروری ہے تاکہ ٹیکنیکل ایڈیٹنگ کے دوران اس ہدایت سے مددی جاسکے۔ اسکرپٹ نگاری، فلم بندی اور ایڈیٹنگ کے مرحلے سے گزرنے کے بعد نمائش کے لیے پوری طرح تیار ہو جاتی ہے۔

❖ فلم اسکرپٹ کی تیاری

فلم اسکرپٹ لکھنے سے قبل رائٹر کوئی مرحوموں سے گزرا ہوتا ہے۔ رائٹر سب سے پہلے موضوع کا تعین کرتا ہے۔ اس کے بعد موضوع کی مناسبت سے واقعیاتی ترتیب طے کی جاتی ہے۔ اس کے بعد فلم کی کہانی کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں کہانی کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ دوسرا حصے میں متعدد واقعات یعنی بعد دیگر دکھائے جاتے ہیں۔ تیسرا حصے میں کہانی کو فقط عروج تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہانی اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ فلم کی کہانی کو واقعیاتی ترتیب کے اعتبار سے میں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ کہانی کو میں میں اس لیے تقسیم کیا جاتا ہے کہ اس سے اسکرپٹ لکھنے اور اسے فلم بند کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ فلم کی اسکرپٹ جب تیار ہو جاتی ہے تو علاحدہ طور پر مکالمہ لکھا جاتا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مکالمہ کو اسکرپٹ نگار کہانی کے ساتھ لکھتا ہے لیکن اسے مزید بہتر بنانے کے لیے مکالمہ نگاروں سے بھی مددی جاتی ہے۔ اگر فلم میں کوئی ایشیش ٹریننگ یا خصوصی طریقہ کار کا استعمال کرنا ہو تو اسکرپٹ نگار اس کی نشاندہی اسکرین پلے میں کر دیتا ہے۔ مثلاً کوئی طویل میں، ہوائی جہاز یا اسٹریک استعمال، کسی ایک رنگ کی سودا و گاڑیوں کا استعمال اور اونچے پہاڑ یا جھیل جھرنے وغیرہ۔

ان دونوں فلموں میں ایشیش فیلمس یعنی خصوصی تاثر کو بھی ابہت حاصل ہو گئی ہے۔ اسکرپٹ لکھنے والا یہ تجویز بھی کرتا ہے کہ کہانی کے اعتبار سے کس قسم کے ایشیش فیلمس فلم کی کامیابی کی حمانت ہو سکتے ہیں۔ فلم اسکرپٹ کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں مکالمہ اور دوسرا حصے میں اسکرین پلے یعنی منظر نامہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ

اسکرپٹ میں سین نمبر، کرداروں کے نام، دن، رات، اندر، باہر وغیرہ کا اندر ارج ضروری ہے۔ اس طرح کی تفصیل سے فلم بندی میں آسانی ہوتی ہے۔

2.7.2 دستاویزی فلم (Documentry Film)

یہ دستاویزی پرمنی فلم ہوتی ہے اس لیے اسے دستاویزی فلم کہا جاتا ہے۔ انگریزی لفظ ڈاکومنزی، ڈاکومنٹ اور کمنٹری وہ لفظوں کا مرکب ہے۔ یعنی ڈاکومنزی فلم وہ ہے جس میں دستاویز کو منظری کی شکل میں پیش کیا جائے۔ دستاویزی فلم میں کمنٹری یعنی بیانیہ کا ہونا لازمی ہے۔ ایسے حقائق جو ماضی میں گزر چکے ہیں اور جھیں جانے میں عوام کی دلچسپی ہو سکتی ہے، انھیں دستاویزی فلم کے ذریعے منظر عام پر لایا جاتا ہے۔

ڈاکومنزی حقیقت یا دستاویز پرمنی ہوتی ہے اس لیے اس میں تحقیق کی خصوصی اہمیت ہے۔ ڈاکومنزی فلم ساز کو سب سے پہلے تحقیق کے مرحلے سے گزرا ہوتا ہے۔ اس میں حقائق کو تو زمزد کر کیا جائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں موضوع سے متعلق تحقیق کے ذریعے مواد کو بیکار کے تسلیل کے ساتھ تحریر کیا جاتا ہے۔

ڈاکومنزی میں عام طور پر انترو یو ز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسکرپٹ کو جب فلم بند کیا جاتا ہے تو ضرورت کے اعتبار سے انٹرو یو کی جگہ معین کردی جاتی ہے۔ چوں کہ ڈاکومنزی میں کہانی تو ہوتی نہیں ہے اس لیے ایسے انٹرو یو کے ذریعے ناظرین کی دلچسپی میں اضافہ کیا جاتا ہے۔

ڈاکومنزی میں ضرورت کے اعتبار سے تصاویر، خاکے اور گرافس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً کسی تاریخی شخصیت پر ڈاکومنزی بنائی جائی ہو تو اس میں تاریخی شخصیت کی تصویر اگر دستیاب ہے تو استعمال کی جاسکتی ہے۔ اسی طرح ضرورت کے مطابق گرافس کے ذریعے بھی معلومات فراہم کی جاسکتی ہیں۔

ڈاکومنزی میں موضوعات کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ تاریخی، تہذیبی، سماجی اور ادبی کسی بھی موضوع پر بنائی جاسکتی ہیں۔ اس میں عام طور پر عصری مسائل کو زیادہ جلدی جاتی ہے۔ ڈاکومنزی کے موضوعات بنیادی طور پر مقصدی ہوتے ہیں۔ ڈاکومنزی فلموں میں سماجی برائیوں کو اجاگر کرنے کی گنجائش ہوتی ہے اور سماجی اصلاح کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ ڈاکومنزی فلم فیچر فلم کے مقابلے مختصر ہوتی ہے۔ عام طور پر اس کا دورانیہ آدھے گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹے کے درمیان ہوتا ہے۔ ڈاکومنزی کے موضوعات فیچر فلم کے مقابلے میں سینیڈہ ہوتے ہیں۔ کیوں کہ اس میں کوئی افسانہ یا ڈرامائیں ہوتا ہے۔ اس لیے اسے دلچسپ بنانے کے لیے موسیقی اور دیگر آوازوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔

ڈاکومنزی اسکرپٹ میں سین، شاٹ، منظر، خصوصی طریقہ کار وغیرہ کا ذکر بھی ضروری ہے۔ اس عمل سے فلم بندی کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔ اسکرپٹ میں جو منظر نامہ بیان کیا جائے، اس میں لفظی / صوتی اور تصویری تسلیل کو پیش نظر کھنالازمی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ایسے حقائق کو منظر عام پر لانا ہوتا ہے جو عام طور پر لوگوں کی نظر وہی اچھی ہوتے ہیں یا کسی ایسے سماجی مسئلے کو اجاگر کرنا ہوتا ہے جس سے معاشرے میں بیداری اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ اس میں تصوراتی اور غیر حقیقی باتوں سے گریز کیا جاتا ہے۔

❖ دستاویزی فلم اسکرپٹ کی تیاری

ڈاکومنٹری دستاویز پر منی فلم ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے موضوع کا انتخاب کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد موضوع سے متعلق تحقیق کی جاتی ہے۔ تحقیق کے بعد جو مواد یا معلومات جمع ہوتی ہے ان کی ایک خاص ترتیب قائم کی جاتی ہے یعنی کیا چیز پہلے پیش کرتی ہے اور کیا بعد میں اور کسی حقیقت کو درمیان میں دکھانا ہے تاکہ دیکھنے والے کی دلچسپی قائم رہے اور موضوع کا حق بھی ادا ہو جائے۔ پیش کش کے اعتبار سے ڈاکومنٹری کی اسکرپٹ مکالماتی نہ ہو کر بیانیہ ہوتی ہے۔ اس میں اطلاعات کو منظری یعنی بیانیہ کی شکل میں تحریر کیا جاتا ہے۔ بیانیہ کے درمیان ضرورت کے مطابق انخروپوز وغیرہ کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ ڈاکومنٹری کی اسکرپٹ دو طرح سے لکھی جاتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے کمنٹری لکھی جاتی ہے اور اس کمنٹری کی بنیاد پر ڈاکومنٹری کو فلم بندر کیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈاکومنٹری میں دکھائی جانے والی تمام چیزوں کو فلم بندر کر لیا جاتا ہے۔ فلم بندر کی بھولی تصاویر کی بنیاد پر کمنٹری بیانیہ لکھا جاتا ہے۔ یہ طریقہ زیادہ تر تاریخی یا شخصی ڈاکومنٹری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً دہلی کی تاریخی عمارتوں پر اگر ڈاکومنٹری فلم بنانی ہو تو ان عمارتوں کی پہلے فلم بندر کی جائے گی۔ اس کے بعد ان تصاویر کو واپس کیا جائے گا۔ اس طرح ڈاکومنٹری کی تصویری اسکرپٹ تیار ہو جائے گی جس کی بنیاد پر بیانیہ لکھا جائے گا۔ ڈاکومنٹری کی اسکرپٹ کو سیریل اور فلم کی طرح ہی دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں بیانیہ اور دوسرے حصے میں اسکرین پلے لکھا جاتا ہے۔ ڈاکومنٹری کی فلم بنندی میں بیانیہ اور اسکرین پلے ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں۔


2.7.3 اشتہاری فلم

میڈیا کے تقریباً تمام پروگراموں میں اشتہار کی بنیادی اہمیت ہوتی ہے۔ اشتہار مختلف موضوعات پر ہوتے ہیں۔ ان میں عام طور پر کسی کمپنی، سرکاری پالیسی، سیاسی جماعتوں کی بھی، تعلیمی اصلاح و بیداری بھی اور سیاستی فروغ وغیرہ کی تشهیر شامل ہے۔ میڈیا میں اشتہار دینے کے لیے مذکورہ ادارے بڑی رقم ادا کرتے ہیں۔ اشتہار منافع کا ایک ایسا نظام ہے جس میں اشتہار دینے، لینے اور بنانے والے تینوں منافع حاصل کرتے ہیں اور آخر کار اس منافع پر منی تجارت کا بار صارفین کو اٹھانا پڑتا ہے۔ سامیعن اور ناظرین میڈیا کے بڑے صارف ہیں۔ وہ پروگرام کو دیکھتے ہیں، وہ جتنا زیادہ پروگرام کو دیکھیں گے، اس پروگرام کا نقطہ شرح ہدف (Target Rating Point) یعنی آرپی اتنا ہی بڑھے گا۔ آرپی کی بنیاد پر اشتہار کی رقم کا تقین ہوتا ہے۔ اشتہار سازی کا دائرہ انتداہ سیچ ہو چکا ہے کہ فلم صنعت کی طرح ایک علاحدہ اشتہار کی صنعت کا قیام عمل میں آچکا ہے۔

اشتہار کا اصل مقصد اپنے برائی کی تکمیل کرنا، بازار میں اپنی گرفت مضمبو ط کرنا، بازار کو وسعت دینا اور نئے علاقوں پر پیدا کرنے ہے۔

اشتہار کے لیے ضروری ہے کہ صارفین ان پر اعتماد کرتے۔ اس لیے اشتہار تیار کرتے وقت کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں فراہم کردہ تمام اطلاعات صارفین کے دل کو چھو جائیں۔ اشتہار کے سلوگن میں ایسی کشش ہوئی چاہیے کہ

صارفین متجه ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ اشتہار کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے سلوگن زبان زد ہو جائیں۔ کچھ سلوگن اتنے مقبول ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کو آج بھی متاثر کرتے ہیں۔ جیسے یہ دو بند زندگی کی، بیٹی چاؤ، بیٹی پڑھاؤ، سب بڑھیں، سب بڑھیں، اور زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی وغیرہ۔ صارفین کو متوجہ کرنے اور ان میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے موثر سلوگن کی فنکاران پیشکش ضروری ہے۔



ساماجی اصلاح جیسے نسل بندی، تباکو نوشی، کالا بازاری، پلس پولیو، ایڈس، سماجی ہم آہنگی، خاندانی منصوبہ بندی، حق رائے وہی کے استعمال، تعلیم کے فروغ وغیرہ کے مختلف اشتہاروں کے ذریعے عوام کو بیدار کیا جاتا ہے۔ عہدِ حاضر میں اشتہار کے شعبے میں خاصی ترقی ہوئی ہے۔ اشتہار کا استعمال رائے عامہ ہموار کرنے، رائے تبدیل کرنے اور عوام کو متاثر کرنے کے لیے بھی کیا جا رہا ہے۔ ایسے اشتہاروں سے سماجی بیداری اور سماجی ہم آہنگی کا فروغ ہوا ہے۔

پچھلے کچھ عرصے میں اشتہاری فلم کا تصور بہت تیزی سے ابھرا ہے۔ سماجی و سیاسی معاملات میں اب اشتہار کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ اشتہار صرف کسی پروڈکٹ کی تشویش نہیں ہے بلکہ سیاسی و سماجی مہمات کا ایک اٹوٹ حصہ بن چکا ہے۔ سیاسی جماعتوں، اپنی مہم میں اشتہار کا غاطر خواہ استعمال کر رہی ہیں۔ انتخابی مہم کے ساتھ حکومت کی پالیسیوں کی تشویش اور توسعیں بھی اشتہارات کا استعمال ہو رہا ہے۔ حکومتوں اور وزارتوں کی جانب سے بھی اپنی شبیہ کو بہتر بنانے کے لیے اشتہاری فلم بنوائی جاتی ہے اور اسے مددیا کے ذریعے عوام تک پہنچایا جاتا ہے۔

♦ اشتہاری فلم کی تیاری

اشتہاری فلم کی متعدد اقسام ہوتی ہیں۔ اشتہاری فلم بنانے سے پہلے یہ طے کیا جاتا ہے کہ کس چیز کی تشویش کرنی ہے، کسی حکومت روزارت کی خدمات کو عوام تک پہنچانا ہے، کسی سماجی بیداری یا مہم کے لیے اشتہار بنانا ہے، کسی سیاسی جماعت کے لیے انتخابی اشتہار کی تشكیل کرنی ہے یا پھر کسی بڑی کمپنی کی مجموعی طور پر برائندگ کے لیے اشتہار بنانا

ہے۔ کیونکہ مذکورہ تمامی اشتہار، اپنی ساخت، جنم، دورانیے اور پیش کش کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ دراصل اشتہاری فلمیں مقصدی ہوتی ہیں۔ اس لیے اشتہار کی اسکرپٹ لکھتے وقت یہ ذیال رکھنا چاہیے کہ اس کے مقصد کی ترسیل ہو رہی ہے یا نہیں۔ اشتہاری فلم میں نظرے، فیگ لائن رسلوگن کی بڑی اہمیت ہے۔ ایسے پرکشش سلوگن، صارفین کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ اس لیے اشتہار میں خوبصورت پیغام کا ہونا ضروری ہے۔ اشتہار میں جملے چھوٹے اور پرکشش ہونے چاہئیں۔ انتخابی اشتہار، عام طور پر بڑے ہوتے ہیں۔ ان میں زیادہ باتیں کہنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ ان میں رقص، موسیقی، گیت، مکالے اور طویل مناظر دکھائے جاسکتے ہیں لیکن پانچ سینئنڈ کے کسی اشتہار میں یہ سہولت نہیں ہوتی ہے۔ اشتہار کو کچھ اس طرح پیش کیا جانا چاہیے کہ ناظرین متوجہ ہوئے بغیر نہ رکھیں۔ اشتہاری فلم کو بھی اسکرپٹ نگاری کے عمل سے گزرا پڑتا ہے یعنی اشتہار کی اسکرپٹ میں مکالے اور اسکرپٹ میں پلے کا لکھا جانا ضروری ہے۔ اسکرپٹ کے مطابق ہی اشتہار کو فلم بند کیا جاتا ہے۔

2.7.4 شارت فلم

‘شارٹ فلم’ میں ٹیلی ڈراما اور ٹیلی فلم کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ شارت فلم ان کے مقابلے بہت مختصر ہوتی ہے۔ اس میں کسی ایک نقطہ نظر یا خیال کی پیش کش ہوتی ہے۔ حالیہ دنوں میں شارت فلموں کی مقبولیت بہت بڑھی ہے۔ اس کے موضوعات کا دائرہ پہلے کے مقابلے وسیع ہوا ہے۔ شارت فلموں میں جب سے عصری مسائل کو جگہ دی جانے لگی ہے، ان کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی مقبولیت کے پیش نظر ہی شارت فلموں کے لیے علاحدہ فلم فیشوں کا اہتمام کیا جانے لگا ہے۔

‘شارٹ فلم’ چوں کمختصر ہوتی ہے لہذا اس کی پیش کش کا مرحلہ بہت نازک ہوتا ہے۔ انقصار کے ساتھ نقطہ نظر کی تکمیل انتہائی محنت طلب کام ہے۔ نشہ خوری کو بری لست ثابت کرنے، تیز رفتار ڈرائیورنگ کے نقصانات واضح کرنے یا اس طرح کے دیگر سماجی مسائل کو شارت فلموں میں جگہ دی جاتی ہے۔ ایسے پر ڈرام مختصر ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ میں مکمل ہوتے ہیں۔

ایسی فلموں میں ڈرامائیت کا پورا پورا خیال رکھا جاتا ہے تاکہ ناظرین کی دلچسپی ہمہ وقت قائم رہے۔ ان میں کرداروں کے علاوہ اہم شخصیات کے اقوال، مقبول عام موسیقی، تصاویر اور کیفیں پر بنائے ہوئے ایقچ وغیرہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

ایسی فلموں کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے دور درشن نے شارت فلموں کی ایک سیریز ‘ڈراموپیچے’ کے نام سے پیش کی تھی۔ اس سیریز کو عوام نے بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ اس کے تحت کم وقت میں مہارت، ڈرامائیت اور فنکاری کے ساتھ عصری مسائل کو پیش کیا گیا جیسے پانی و بجلی کو ضائع کرنا، گندگی پھیلانا، پارک گ کا مسئلہ اور بالکنی میں گیلے کپڑے پھیلانا وغیرہ۔ ایسی فلمیں ناظرین کو غور و فکر کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ شارت فلموں کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان سے عوام کی اخلاقی اور سماجی تربیت ہوتی ہے۔

❖ پر مو (Promo) ❖

شارٹ فلم کی ایک شکل پر مو (Promo) ہے۔ پر مو میں کسی پروگرام کا مختصر اشتہار ہوتا ہے۔ یعنی اس پروگرام کے خاص خاص پہلوؤں کو جمع کر کے پر مو بنایا جاتا ہے جس سے ناظرین میں اس پروگرام کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ پر مو میں نظر ہونے والے پروگرام کے وقت اور تاریخ کی تفصیل دی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کے دلچسپ ٹھوٹوں کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے پر مو کو دو پروگراموں کے درمیان خالی اوقات میں دکھایا جاتا ہے۔ اگرچہ پر مو، شارٹ فلم کی ایک شکل ہے لیکن اب اس کی اپنی الگ شناخت بن چکی ہے۔ ٹیلی ویژن پر تفریجی اور صحافتی پروگراموں میں پر مو کا استعمال بڑے پیمانے پر ہونے لگا ہے۔ اگر کوئی سیریل لائچ ہوتا ہے تو اس کا پر مو اس کے لائچ ہونے سے قبل ٹی وی اسکرین پر دکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح ٹی وی پر نیوز بلینٹن کا بھی پر مو بنایا جاتا ہے۔ ہر آدھے گھنٹے کے نیوز بلینٹن میں کم سے کم پانچ اہم خبروں کی سرخیوں کو پر مو کے طور پر شامل کر لیا جاتا ہے اور اسے آدھے گھنٹے کے درمیان دو تین بار دکھایا جاتا ہے جس کے سبب ناظرین میں پورے بلینٹن کو دیکھنے کا اشتیاق بڑھ جاتا ہے۔ بڑے پردے کی فلموں میں بھی پر مو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے پر مو میں فلم کے کچھ خاص میں، گیت اور مکالموں کو کچھ اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والے متاثر ہوتے ہیں اور فلم کو دیکھنے کے لیے ان کا تحسس بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیلی ویژن پر دکھائے جانے والے ایسے متعدد پروگرام ہیں جن کے پر مو بنائے جاتے ہیں۔ جیسے ریلیشنی شو، فلم ایوارڈ شو، سیریل ایوارڈ شو اور ثقافتی تقاریب وغیرہ۔

❖ شارٹ فلم کی تیاری ❖

شارٹ فلم بہت مختصر ہوتی ہے۔ اس کی اسکرپٹ میں کم سے کم وقت میں اہم باتیں آجائی چاہئیں۔ شارٹ فلم کے موضوع کا انتخاب کرتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں سماجی مسائل کی نشان دہی ہو اور اس سے عوام میں بیداری پیدا ہو۔ ان میں کسی نہ کسی مقصد یا پیغام کی ترسیل کی جاتی ہے۔ فلم میں اش پیدا کرنے کے لیے مؤثر مکالمے اور ڈرامائی و فن کارانہ پیش کش کا لاحاظہ رکھنا چاہیے۔ شارٹ فلموں کو بھی دیگر فلموں کی طرح اسکرپٹ نگاری کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ جس کے تحت مکالمے اور اسکرین پلے لکھے جاتے ہیں اور انھیں فلم بند کرنے کے لیے میں نمبر، وقت، دن، رات، لوکیشن، ان ڈور آؤٹ ڈور اور کرداروں کے نام وغیرہ ہدایت کے طور پر درج کیے جاتے ہیں۔



نیومیڈیا / سوشن میڈیا



3.1 تعارف

کمپیوٹر نیکنالوجی کی مدد اور مختلف بر قی ذرائع ابلاغ کے استعمال سے فراہم کیے جانے والے متن و مواد کو ”نیومیڈیا“ کہتے ہیں۔ یہ میڈیا کی وہ قسم ہے جو کمپیوٹر کے ذریعے تخلیق پا کر کمپیوٹر کا غصر بن جائے اور اشتراک و تقسیم کے لیے کمپیوٹر نیکنالوجی پر ہی مختص ہو۔ عام طور پر نیومیڈیا کی ترکیب اس مواد کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے جو ضرورت کے وقت انٹرنیٹ کے ذریعے دستیاب ہو سکے۔ یہ مواد کمپیوٹر، لیپ ٹیپ، ٹیب لیٹ، اسارت فون وغیرہ جیسی کسی بھی مشین (Device) پر دیکھا جاسکتا ہے اور یہ لوگوں کو ر عمل ظاہر کرنے اور تبصہ کرنے کے موقع فراہم کرتا ہے۔ غالباً اذیں اس مواد کا عام لوگوں کے ساتھ اور سماجی طور پر عزیز و اقارب کے ساتھ آن لائن اشتراک کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ویب سائٹ (Website)، بلاگ (Blog)، مائیکرو بلانگ (micro blogging)، بر قی ہموں کے ذریعے سمعی و بصری نشریات (streaming audio and video)، بتلکف گفتگو کے لیے چیٹ روم (chat room)، ای-میل (email)، آن لائن برادری (online community)، سوشن میڈیا اور مقام برائے اشتراک (social media and sharing platform)، موبائل اپلی کیشن (mobile Application)، ویب اشتہارات (Web Advertising)، ڈی وی ڈی اور سی ڈی-روم میڈیا (DVD and CD-ROM)، تصوراتی دنیا (virtual world)، کمپیوٹر گیمس، انسان و کمپیوٹر کا اتصال (human-computer media)، ر عمل پر منی کمپیوٹر تنصیبات (Interactive computer installations)، ڈیجیٹل ڈائٹا کا ٹیلی فون کے ساتھ انضام کرنا جیسے انٹرنیٹ ٹیلی فون، اینی میشن (Animation) اور ڈیجیٹل کیسر وغیرہ۔ ”نیومیڈیا“ کی اصطلاح روایتی میڈیا یعنی پرنٹ میڈیا، ریڈی یو اور ٹیلی ویژن سے ہرگز متصادم نہیں ہے۔ بلکہ یہ میڈیا کی روایتی اقسام مثلاً مطبوعات اخبارات و جرائد جیسے جامد یا غیر متحرک متن، بر قی ہموں پر منی ریڈی یا اینی نشریات اور ٹیلی ویژن کے متحرک پروگراموں کا بہترین امترانج ہے جو میڈیا کی توسعہ شدہ جدید ترین شکل ہے۔ تاہم یہ روایتی میڈیا کی طرح یک طرف نہیں ہے بلکہ اس میں باہمی شمولیت، ر عمل اور اشتراک کے موقع بہر حال موجود ہیں۔ وکی پیڈیا (wikipedia) نامی آن لائن انسلائکو پیڈیا ”نیومیڈیا“ کی ایک اچھی مثال ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے ڈیجیٹل عبارت، تصویریں اور فلموں پر من فراہم کرتا ہے۔ اس میں اشتراک کرنے والوں کی تحقیقی حصہ داری اور استعمال

اظہار اور رائج اظہار

کرنے والوں کی بازرسی (Feedback) کے علاوہ ایک بڑی مجلس ادارت کی تشکیل بھی شامل ہے جس میں دنیا بھر کے مدیر شامل ہوتے ہیں۔

اس طرح نیومیڈیا نے ہر خاص و عام کو اظہار کے فوری اور آسان موقع فراہم کیے ہیں۔

❖ نیومیڈیا کی وجہ تسلیم

اطلاعات رسانی کے تمام بر قیاتی اور اختراعی طریقوں کو نیومیڈیا کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ تحریری متن، گرافس اور سمعی و بصری مواد کی آن لائن نشر و اشتاعت کا بالکل نیامیڈیم ہے۔ اسی لیے اسے نیومیڈیا کہا جاتا ہے۔

❖ ایک عام غلط فہمی کا ازالہ

یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ اکثر لوگ ”سوش نیٹ ورک“ کو ہی نیومیڈیا سمجھ لیتے ہیں۔ دراصل یہ نیومیڈیا کا حصہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ایسا نیٹ ورک جو ہمارے سماجی رابطوں کے لیے استعمال کیا جائے ”سوش نیٹ ورک“ کہلاتا ہے۔ آج کے دور میں فیس بک اور واؤس ایپ اس کی عدمہ مثالیں ہیں۔

3.1.1 مقبولیت کی وجوہات

عہدہ حاضر میں نیومیڈیا کو تیزی سے مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ اس کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا (اخبارات و رسائل) اور الیکٹریک میڈیا (ریڈیو اور ٹیلی ویژن) میں قارئین، سامعین اور ناظرین کو اپنی رائے دینے کے موقع بہت کم حاصل تھے۔ ان کے مقابلے نیومیڈیا میں عوام کو فوری طور پر اپنی رائے دینے کی آزادی حاصل ہے۔

نیومیڈیا معلومات کی اشتراک کا بہترین ذریعہ ثابت ہوا ہے۔ اسی لیے اسے شیرنگ پلینی فارم بھی کہا جاتا ہے۔ اطلاعات و معلومات کا اپنے سماج اور ساتھیوں کے ساتھ تیزی سے اشتراک کرنے کی سہولت نے بھی نیومیڈیا کو مقبولیت بخشی ہے۔

اس کی مقبولیت کی ایک اور اہم وجہ یہ ہے کہ یہ استعمال میں آسان (User Friendly) ہے۔ کمپیوٹر کی دنیا میں مانگرو سافت ونڈوز اور موبائل فون میں اینڈ رائیز جیسے آپریٹنگ سسٹم کی ایجاد کے بعد نیومیڈیا کا استعمال انتہائی آسان ہو گیا ہے۔ موبائل فون کی دنیا میں سے استارٹ فون کی آمدنے اسے مزید تقویت بخشی ہے۔ کار و باری مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بھی نیومیڈیا کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے۔ اشتہارات کی کستی اور آسان تریل اور بیک وقت متعدد ایس ایم ایس (Bulk SMS) اور پیغام رسانی کی موبائل اپلیکیشن میں نشریات (broadcasting) کی ابتداء نے بھی اس کی مقبولیت میں اہم روپ ادا کیا ہے۔

3.1.2 دائرہ کار

نیومیڈیا کا دائرة بہت وسیع ہے۔ اس نے بھی اطلاعات کی بروقت اور تیز رفتار تریل کی سہولت فراہم کی ہے اور جنپی افراد و قوام کے مابین رشتے ہموار کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس سے آن لائن تجارت میں ترقی ہوئی ہے۔ اس کی مدد سے ہم گھر بیٹھے اشیا کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ اس سے اشتہار کے شعبے کا فروغ ہوا ہے اور اشتہارات

تک عام لوگوں کی رسائی آسان ہوگی ہے۔ اسی بیننگ کے ذریعے مالی لین دین اور صنعت و حرف کے معاملات بھی طے کر سکتے ہیں۔ نیومیڈیا کا سب سے بڑا کارنامہ شخصی صحفت (Citizen Journalism) کا فروغ ہے۔ جس میں ہر شخص آزادانہ ایک صحافی کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ آج ہمارے لیے قومی اور میں الاقومی معاملات پر اپنی رائے کا اظہار اسی کے سب آسان ہو گیا ہے۔ نیومیڈیا سے پروپیگنڈے یا شہر کا بھی بڑے پیمانے پر کام لیا جا رہا ہے۔ آج سیاسی جماعتیں اور تجارتی ادارے بھی نیومیڈیا کا بخوبی استعمال کر رہے ہیں۔ چوں کہ نیومیڈیا ایک آزاد اور غیر منظم ذریعہ اظہار ہے اس لیے ایسی صورت میں اس کے نامناسب استعمال کی گنجائش بھی رہتی ہے۔ ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے اس کا مناسب استعمال کرنا ضروری ہے۔

3.1.3 معلومات کا ماغز

نیومیڈیا میں معلومات کا بیش بہتر نہ ہے۔ اس میں کئی کتب خانے سمائے ہوئے ہیں جو مضمایں کا تناظر و پس منظر بتاتے ہیں اور حقائق کی تصدیق و تردید کرتے ہیں۔ یہ میڈیا خبریں اور رائے نشر کرنے کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صحافی کی معلومات کا مآخذ بھی ہے اور معلومات کی جائیج کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ بھی۔

3.1.4 نیومیڈیا کا صحافی

نیومیڈیا کے لیے کام کرنے والا صحافی اکثر مصروف رہتا ہے۔ اس پر ہمہ وقت اپنے کام کو پورا کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اسے اطلاعات کو مختلف شکلوں میں پیش کرنے کی مہارت پیدا کرنی ہوتی ہے۔ مثلاً اسے تحریری، گرافس، سمعی اور بصری مواد تیار کرنے کے علاوہ ایک اچھا فوٹوگرافر، ایک ماہر کمپیوٹر وال اور اچھا ویب ماسٹر ہونا چاہیے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ نیومیڈیا کی طرز پر سوچنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ یعنی اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی اطلاع پیش کرنے کے لیے کس آلے، تکنیک اور طریقہ کا کو استعمال کرنا چاہیے۔ کسی مخصوص واقعہ کو ایک کہانی کی طرز پر پیش کرنا بہتر ہو گایا گرافس کی شکل میں۔ اس میں ویڈیو کلپ کہاں آنا چاہیے اور آڑیو کہاں مناسب رہے گی؟ کسی مخصوص روپریت میں ان سمجھی تکنیکوں کا استعمال کیا جانا چاہیے یا جس چند ایک کا؟ غرض یہ کہ اس کے ذہن میں تحریری نقش کے ساتھ ساتھ سمعی و بصری تصورات بھی واضح ہونے چاہئیں۔


نیومیڈیا سے وابستہ صحافی کو مسلسل اپنے علم و فن میں اضافہ کرنے اور نئی نیکنا لو جی سیکھنے کی تگ و دو میں لگ رہنا چاہیے۔ اسے نیکنا لو جی کی قوت کا ندازہ ہونا بھی ضروری ہے۔ محض تکنیک سیکھنے اور اس پر بغیر سوچے سمجھے عمل شروع کر دینے سے مؤثر صحفت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔

3.1.5 صحفت بذریعہ موبائل فون

موبائل فون کو اطلاع رسانی کے ایک آلے کے طور پر استعمال کرنے کو موبائل صحفت کہتے ہیں۔ آج کے دور میں اسے موجود (MoJo) یعنی موبائل جوائز (Mobile Journalism) کا نام بھی دیا گیا ہے۔ موبائل صحافی تیز رفتار اطلاع رسانی کے لیے اپنے موبائل فون کو کیسرے اور کمپیوٹر کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ وہ کسی بھی واقعہ کو براؤ

اطھار اور رائج اطھار

راست نشر کر سکتا ہے یا اس کی ریکارڈنگ کر کے موبائل فون پر ہی ایڈ بینگ کر کے اسے اور فوری طور پر اپنے دفتر بھیج دیتا ہے۔ اس کے لیے صحافی کو مستدرہ ہنے کے ساتھ ساتھ نئی موبائل اپلیکیشنوں سے بھی واقف ہونا لازمی ہے۔ موبائل فون کی کیسرہ کوائی اور تیز رفتاری بھی اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے صحافی کے پاس جدید ٹکنالوجی کا حامل فون ضروری ہے۔



3.2 انفرادی اطھار مرکوز میڈیا

نیومیڈیا میں فرد کے اطھار کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کسی میڈیا کو تک نیومیڈیا نہیں کہا جا سکتا جب تک اس میں فر د کے رد عمل اور اشتراک کی گنجائش موجود نہ ہو۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انفرادی اطھار مرکوز میڈیا ہے۔

3.2.1 سوچل نیٹ ورک میں اطھار کا طریقہ

سوچل نیٹ ورک سماجی رابطوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں سوچل نیٹ ورک کا جال بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کے اچھے برے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی سوچل نیٹ ورک پر اطھار خیال کرنے کے لیے یہ جانا ضروری ہے کہ:

- اطھار کیسے کریں؟
- سوچل نیٹ ورک کے لیے کیسے لکھیں؟
- اس نیٹ ورک کا استعمال کیوں اور کیسے کریں؟
- اس سہولت سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟
- دنیا بھر میں سوچل نیٹ ورک کا استعمال کس طرح ہو رہا ہے؟
- اس کا مثالی استعمال کیسے کیا جانا چاہیے؟

عوای ذراع ابلاغ

سوشل نیٹ ورک پر تم تحریری، تقریری اور تحقیقی طور پر اظہار کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ملک میں واٹس ایپ، فیس بک، ٹوئٹر، یوٹیوب، انٹاگرام اور گوگل پلس وغیرہ جیسے نیٹ ورک (ویب سائٹ اور موبائل اپلیکیشن) بہت مقبول ہیں۔ ذیل میں ان کی تفصیل پیش کی جا رہی ہے:

3.2.2 واٹس ایپ (WhatsApp)



واٹس ایپ پیغام رسانی کی ایک موبائل اپلیکیشن ہے۔ آج کل یہ بہت مقبول ہے اور اس ارت فون رکھنے والا تقریباً ہر شخص اسے استعمال کرتا ہے۔ اس میں انفرادی طور پر تحریری، تصویری اور ویڈیو کلپ بھیجنے اور وصول ہونے کے علاوہ اجتماعی اشتراک کی بھی سہولت موجود ہے۔ آپ گروپ بناؤ کہ اس میں گپ شپ اور اطلاعات کا تبادلہ بھی کر سکتے ہیں۔ پیغام، تصویر، فون نمبر اور سافت فائل کے علاوہ لوکیشن کا بھی اشتراک کیا جاسکتا ہے تاکہ کوئی مہمان راستہ نہ بھول پائے اور گوگل میپ پر آپ کی لوکیشن دیکھ کر منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ اب واٹس ایپ کے ذریعے رقم کی لین دین بھی ممکن ہے۔

3.2.3 فیس بک (Facebook)



یہ ایک نہایت مقبول سوшل نیٹ ورک سائٹ ہے جس نے اب ایک موبائل اپلیکیشن بھی جاری کر دی ہے۔ فیس بک استعمال کرنے والے کسی فرد کی نامم لائن پر اس کے ذریعہ پوسٹ کیے گئے تمام معاواد کا مطالعہ اور تجزیہ کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اس کی وال پر پوسٹ کیے گئے تمام متن کا جائزہ کے لیے کسی خاص چیز کو پسند کرنے، کسی پر عمل کا اظہار کرنے، ہبڑہ کرنے، اشتراک کرنے، اس دوست کی وال پر پیغام تحریر کرنے، اس کے دوستوں کی فہرست پر غور و خوض کرنے کی سہولت دستیاب ہے۔ اسی طرح دوسرے لوگ آپ کی وال اور نامم لائن کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس میں انفرادی پیغام بھیجنے کی بھی گنجائش ہے۔

3.2.4 ٹوئٹر (Twitter)



ٹوئٹر ایک مانیکرو بلانگ سائٹ اور اپلیکیشن ہے۔ مختصر اطلاعات اور پیغام رسانی کے لیے یہ انتہائی مقبول ہے۔ ہمارے ملک کے عوام، مشہور شخصیات، کاروباری اور پیشہ ور افراد، دانشور طبقے اور صاحبوں کے علاوہ سیاسی رہنماؤں نے بھی اس کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں لوگ ایک ایک شخص کو فالو (Follow) کر رہے ہیں۔ آپ بھی اپنی پسند کے لوگوں کو فالو کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اس شخص کے ذریعے کوئی بھی ٹوئٹ کرتے ہی آپ کے پاس ایک نوٹیفیکیشن آئے گا۔ آپ اس ٹوئٹ کو پسند کر سکتے ہیں، اس کا جواب تحریر کر سکتے ہیں، اس ٹوئٹ کا حوالہ دے سکتے ہیں اور اس کا اشتراک کر سکتے ہیں۔

3.2.5 یوٹیوب (YouTube)

یوٹیوب ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس پر ہر طرح کے ویڈیو ملیں گے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ان کو پسند یا

ناپسند کر سکتے ہیں، ان پر تبصرہ کر سکتے ہیں، انھیں ایک دوسرے کو بھیج سکتے ہیں اور انھیں حفظ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو یوٹیوب استعمال کرنے والوں نے ہی آپ لوڈ کیے ہیں۔ یوٹیوب چینل بنانے کا پانی من پسند ویڈیو اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔

3.2.6 انٹاگرام (Instagram)

انٹاگرام ایک موہائل اپنی کیشن ہے جو تصویریں کھینچنے، انھیں ایڈٹ کرنے اور شیئر کرنے کے لیے مقبول و معروف ہے۔ اس پر ویڈیو بھی آپ لوڈ کی جاسکتی ہیں۔ اسی کو اپنے اکاؤنٹ کو حفظ دوستوں تک محدود رکھنے یا سب کے لیے عام کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اس پر اپنے دوستوں، افراد خانہ، مشہور شخصیات وغیرہ کو فالو کر سکتے ہیں۔ ان کے ذریعے آپ لوڈ کی گئی تصویریں اور فلمیں پسند کرنے، ان پر تبصرہ کرنے اور ان کا اشتراک کرنے کے علاوہ انھیں اپنے منتخب ذخیرے میں جمع بھی کر سکتے ہیں۔



3.2.7 گوگل پلس (Google+)

گوگل پلس انٹرنیٹ پرمنیک ایک سوٹل نیٹ ورک ہے۔ سرکل (Circle) اس کا خاص پلیٹ فارم ہے جو لوگوں کو کسی خاص ہدف یا فلاحی کام سے متعلق اطلاعات کے تبادلے کی سہولت مہیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پیغامات کا تبادلہ، پسند و ناپسند، اشتراک اور تبصرے وغیرہ بھی گوگل پلس کی خوبیاں ہیں۔



واٹس ایپ، فیس بک، ٹوئٹر، یوٹیوب، انٹاگرام اور گوگل پلس جیسے نیٹ ورک (ویب سائٹ اور موہائل اپنی کیشن) کے بارے میں منفرد معلومات کے بعد اب اس پر غور کریں گے کہ سوٹل نیٹ ورک پر تحریری، تقریری اور تحلیقی طور پر کس طرح اظہار کیا جاسکتا ہے۔ اس ضمن میں درج ذیل باتوں کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے:

عبدالقوی دسنوی (1930-2011)

ہمارا ملک ایک خود مختار، سماجی، سیکولر عوامی جمہوری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو ان حدود میں رکھیں اور اظہار کی آزادی کے نام پر کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے ہمارے ملک کی بنیادی شیعیہ پر کوئی حرفاً آئے۔

ہمیں اپنے ملک کی سماجی اقدار کی پاسداری بھی کرنی چاہیے۔

ہمیں مذہبی رواداری کو ہمیشہ ملاحظہ کھانا ہو گا۔

ہمارے لیے جمہوری اقدار ہمیشہ مقدمہ ہنی چاہیں۔

ہمارے الفاظ سے کسی کی دل ٹکنی یا دل آزاری نہ ہو۔

سوٹل نیٹ ورک پر کچھ بھی تحریر کرنے یا آپ لوڈ کرنے سے پہلے اس پر اچھی طرح غور و فکر کر لیں۔

ہمیشہ زم لجھ میں گفتگو کریں اور مہذب زبان کا استعمال کریں۔

اہم الفاظ سے پہلے بیش بیگ (#) لگادیں جس سے وہ لفظ نمایاں ہو جائے اور تلاش کرنے والے کو آسانی سے مل سکے۔

سوشل نیٹ ورک کا استعمال ہمیشہ تعلیمی، برقیاتی، فلاحی کاموں کے لیے کریں۔
 آج کے مقابلہ جاتی دور میں سوшل نیٹ ورکنگ کو ترین و آموزش کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔
 آپ اپنے ہم جماعتوں کے گروپ ہنا کراؤ سے خیالات اور معلومات کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔
 دنیا میں تقریباً ہر چیز انسانی بہتری اور فلاح کے لیے ایجاد کی گئی ہے۔ لیکن ہمارا طریقہ استعمال اُس چیز کے اچھے یا بے ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ سوшل نیٹ ورک بھی اچھے کاموں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تاہم ان کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے نوجوانوں کے ذہن میں کچھ اس طرح کی باتیں ڈال دی جاتی ہیں جو انھیں رفتہ رفتہ غلط راستے پر لے جاسکتی ہیں۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ سوшل نیٹ ورک پر کسی بھی اجنبی سے کسی معلومات کا تبادلہ ہرگز نہیں کیا جائے۔
 سوшل نیٹ ورکنگ کا مثالی استعمال تب ہی ممکن ہے جب ہم اسے ایک معینہ وقت میں کسی خاص مقصد یا ہدف کے حصول کے لیے استعمال کریں۔ اکثر ہم بہت زیادہ وقت صرف کر دیتے ہیں اور اپنے اصلی مقصد سے بچک جاتے ہیں۔



باب 4

تعلیمی میڈیا

4.1 تعارف

مدرسی و آموزش کے لیے مختلف ذرائع ابلاغ کے استعمال کو ہم تعلیمی میڈیا کہتے ہیں۔ یوں تو ماس میڈیا یا عوامی ذرائع ابلاغ کے نبیادی مقاصد میں معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم و مدرسی کے وسائل کے بارے میں معلومات کو عام کرنا بھی شامل ہے لیکن جب مخصوص طریقہ مدرسی کو اپناتے ہوئے نصاب اور طلباء کو مد نظر رکھ کر کوئی تعلیمی پروگرام کسی بھی تنکانلوگی کی مدد سے اس مخصوص گروپ کے لیے پیش کیا جائے تو وہ تعلیمی میڈیا کے زمرے میں آتا ہے۔

طریقہ مدرسی کو اپناتے ہوئے مخصوص دورانیہ کے ساتھ تعلیمی پروگرام پیش کرنے کی تاریخ خاصی پرانی ہے۔ یوں تو پرنگ پر لیں کی ایجاد کے زمانے سے ہی طلباء کے لیے شائع شدہ مواد کا استعمال کیا جاتا رہا ہے لیکن یہاں ہم صرف الیکٹرائیک میڈیا ایک ہی اپنی بات کو محدود رکھیں گے۔

4.2 تعلیم اور الیکٹرائیک میڈیا

تعلیمی میڈیا کے ماہرین نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ میڈیا کو تعلیم کے فروغ اور حصول میں نبیادی کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے میڈیا کو تعلیمی نظام کا لازمی حصہ قرار دینے کی سفارش بھی کی جاتی رہی ہے۔ پرنسٹ اور الیکٹرائیک میڈیا کی مختلف اقسام کا تعلیمی مقاصد کے لیے کیسے استعمال کیا جائے اور اس کا اطلاق کیسے ہو کہ تعلیم کے ہدف کو بہ آسانی حاصل کیا جاسکے، اس پر بنیادی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر ادارے کی اپنی تعلیمی پالیسی ہوتی ہے اور وہ اپنی ضرورت، دستیاب وسائل اور کورسز کے مواد کے لحاظ سے الیکٹرائیک میڈیا کی مختلف اقسام کا استعمال کرتا ہے۔ فاصلاتی نظام تعلیم کے تحت الیکٹرائیک میڈیا کا استعمال تقریباً نصف صدی سے کیا جا رہا ہے لیکن رواۃی طرز تعلیم میں اس کا استعمال حالیہ برسوں سے ہی شروع ہوا ہے۔ Flip Class اور Blended Learning کا تصور بھی اب عالم ہجور ہا ہے۔ تعلیم میں میڈیا کے استعمال اور اطلاق کو مندرجہ ذیل قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

مربوط میڈیا Complementary Media	مکملی میڈیا Integrated Media
Independent Media	آزاد میڈیا Supplementary Media

❖ مریوط میدیا

مریوط میدیا کے بارے میں فیصلہ نصاب سازی کے وقت ہی ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹر انک میدیا بنیادی میدیم یعنی پرنٹ میدیا کا لازمی جزو ہوگا۔ نصاب سازی کے وقت یہ طے کیا جاتا ہے کہ ان اسپاٹ کوریڈیو یا ٹیلی ویژن کے ذریعہ پیش کیا جائے گا اور سوالات اور تقویضات مخصوص حصے سے دیے جائیں گے۔ اسی وقت یہ فیصلہ بھی کر لیا جاتا ہے کہ اگر 70 فی صد آموزشی مواد تحریری صورت میں طبا کوفرا ہم کیا جائے تو 30 فیصد الیکٹر انک میدیا کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔

❖ تکمیلی میدیا

تکمیلی میدیا، پرنٹ اور الیکٹر انک میدیا کے امتحان کی ایک قسم ہے جس کے متعلق نصاب سازی کے وقت ہی فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ نصاب سازی کے دوران یہ طے ہو جاتا ہے کہ سارا مواد پرنٹ اور الیکٹر انک کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ لیکن جب سائنسی مضامین کی نصاب سازی کرنی ہو تو ایسے میں اصول یا تھیوری، تحریری مواد کی شکل میں اور مشق کے حصے کو الیکٹر انک مواد کی صورت میں طبا کے لیے فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ امتحان سائنسی مضامین کے لیے زیادہ مناسب ہوتا ہے جہاں اصول و نظریات یا تھیوری کے ساتھ ساتھ مشق کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔

❖ معاون میدیا

معاون میدیا کا بنیادی مقصد طبا کے آموزش تجربات کو مزید تقویت بخشنے ہے۔ ایسی صورت میں خود آموزش پرمنی تحریری مواد کو اصل اور بنیادی مواد تعلیم کیا جاتا ہے۔ ابتدی مزید معلومات میں اضافے کے لیے غیر تحریری مواد بھی پیش کیا جاتا ہے تاکہ طبا مضامین کو اچھی طرح پڑھ اور سمجھ سکیں۔ مثال کے طور پر آلوگ کے موضوع کو سمجھنے کے لیے جہاں تحریری مواد کی ضرورت ہوتی ہے وہیں اگر اس مضامون کو ایک ویدیو پروگرام کے ذریعے پیش کیا جائے تو طبا کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ ہندوستان میں زیادہ تر فاصلاتی طرز تعلیم کے کورسیز کے خود آموزشی مواد، کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن کے ذریعے پیش کیے جانے والے تعلیمی اسپاٹ اسی معاون میدیا کے ضمن میں آتے ہیں۔

❖ آزاد میدیا

آزاد میدیا کا استعمال فاصلاتی تعلیم کے ایسے کورسیز میں ہوتا ہے جن میں خود آموزش پرمنی مواد تحریری شکل میں نہ ہو بلکہ اکثر اس کا نصب الیکٹر انک میدیا کے ذریعہ طبا کے لیے پیش کیا جائے۔ اس کا صحیح اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب طبا زیادہ تعلیم یا فتنہ میں ہوں یا خصوصی صلاحیتوں کے حامل طبا ہم کے لیے خاص کورسیز تیار کیے گئے ہوں۔

4.3 تعلیم اور ریڈیو

ریڈیو درس و مدرسی پڑھانے کے لیے ابتداء سے ہی معاون اور موثر میدیم تصور کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے ریڈیو کی ایجاد ہوئی ہے اس کا استعمال روایتی اور فاصلاتی دونوں طرز تعلیم کے لیے یکساں طور پر ہوتا رہا ہے۔

ریڈ یو پر پیش کیے جانے والے اس باق آسان اور عام فہم ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ جلد طلباء کے ذہن نشیں ہو جاتے ہیں۔ ریڈ یو کا دائرہ کار، بہت وسیع ہے۔ یہ جغرافیائی لحاظ سے ایک وسیع خطے کے ساتھ ساتھ دور از علاقوں کا بھی ہے خوبی احاطہ کرتا ہے۔ ریڈ یو کا استعمال بھی بہت ہی آسان ہے۔ اس کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ کوئی دوسرا کام کرتے ہوئے بھی طلباء کی یہ اس باق آسان سکتے ہیں۔

آل انڈیا ریڈ یو کے مختلف ریڈ یو اسٹیشنوں سے ہندوستان کی چونیں زبانوں اور 146 بولیوں میں روزانہ تقریباً دو ہزار گھنٹے کے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ ان کی رسائی ہندوستان کی ستانوں فی صد آبادی تک ہے اور یہ تقریباً نوے فی صد جغرافیائی خطے کا احاطہ کرتا ہے۔

ہندوستان میں اہم تعلیمی ریڈ یو پروگراموں کی تفصیل درج ذیل ہے۔

♦ اسکولی براؤ کاسٹنگ پروگرام

طلبا کے لیے اسکولی براؤ کاسٹنگ پروگرام کی شروعات 1937 میں ہوئی۔ یہ پروگرام کسی خاص نصاب کو سامنے رکھ کر تیار نہیں کیے جاتے تھے۔ یہ عام معلوماتی نوعیت کے پروگرام ہوتے تھے۔ بعد میں آل انڈیا ریڈ یو سے اسکولی نصاب کے مطابق پروگرام نشر کیے جانے لگے۔

♦ منصوبہ برائے تعلیم بالغان اور کمیونٹی فروغ

یونیسکو (UNESCO) کے مالی تعاون سے منصوبہ برائے تعلیم بالغان اور کمیونٹی فروغ مہاراشٹر کے پونے ضلع کے اطراف کے 144 گاؤں میں شروع کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کے تحت مختلف پروگرام نشر کیے جاتے تھے۔ ان میں لیکھر اور مباحثے وغیرہ شامل تھے۔ اس میں زیادہ تر ترقیاتی امور اور زراعت سے متعلق پروگرام پیش کیے جاتے تھے۔ لوگ یہ پروگرام کسی کمیونٹی ہاں یا پنچایت بھوون میں بیٹھ کر سنتے تھے اور آپسی صلاح و مشورے سے یہ طے کرتے تھے کہ پروگراموں میں پیش کیے گئے مشوروں اور تجاذب پر کیسے عمل درآمد کیا جائے۔

♦ اعلیٰ تعلیم کے لیے ریڈ یو کی نشریات

اعلیٰ تعلیم کے لیے ریڈ یو پروگراموں کا آغاز 1965 سے ہوا۔ اس کے لیے دو طرح کے پروگرام تیار کیے جاتے تھے۔ ایک معلوماتی عامة اور دوسرے نصابی موضوعات پر مبنی پروگرام ہوتے تھے جو اس وقت کے مسلمان تعلیم کے طبا کے لیے پیش کیے جاتے تھے۔ ان پروگراموں کی تیاری میں دہلی یونیورسٹی اور انگلش اینڈ فورین لینگو سجنگ یونیورسٹی، حیدر آباد کا تعاون شامل تھا۔

♦ زبان سکھانے کا پروگرام

1979-80 کے دوران ریڈ یو نے تعلیمی پروگراموں کے سلسلے میں ایک اور اہم پیش رفت کی اور زبان سکھانے کا پروگرام آل انڈیا ریڈ یو سے نشر کیا جانے لگا۔

پ. آنو۔ آل انڈیا ریڈ یونیورسٹیز

فصالاتی تعلیم کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے امدادی مواد (Supplementary Material) کے طور پر طلب کے لیے ریڈیائی اس باق کی تیاری شروع ہوئی۔ یہ ریڈیائی اس باق کی پیش کش کی سمت میں ایک منصوبہ بنداور منظم کو شش تھی۔ بنیادی طور پر یہ پروگرام آنو (IGNOU) اور آل انڈیا ریڈ یوکے باہمی تعاون سے نشر کیا جاتا تھا۔

پ. گیان و اُنی۔ تعلیمی ایف ایم ریڈ یو

آنونے 2001 میں اپنا تعلیمی ایف۔ ایم۔ ریڈ یو جیل گیان و اُنی کے نام سے شروع کیا۔ اس میں روزانہ تعلیمی اس باق پیش کیے جانے لگے۔ ایف ایم ریڈ یو کے اس تجربے سے ہندوستان کے مختلف تعلیمی اداروں جیسے این سی ای آرئی، یو جی سی، آئی آئی ٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور دیگر سنٹرل یونیورسٹیوں نے فائدہ اٹھایا اور اپنے تعلیمی پروگرام طلبہ تک پہنچائے۔


پ. تدریس کے لیے ریڈ یو اور آڈیو شیپ کا استعمال

تدریسی مقصد کے تحت چار قسم کے ریڈ یو پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔

- (1) ریڈ یو وژن (2) آڈیو پیپس (3) ریڈ یو سیکسٹ (4) فون ان پروگرام

4.4 تعلیم اور ٹیلی ویژن کا استعمال

ہندوستان میں ٹیلی ویژن کی تعلیمی نشریات کی ابتدا 1961 میں ٹانوی سطح کے طلباء کے لیے پروگراموں سے ہوئی۔ پہلے طبیعتیات، کیمیا، انگریزی اور ہندی زبان کے پروگرام شروع ہوئے۔ یہ پروگرام پسند کیے گئے اور پھر مختلف مضامین پر منی زیادہ سے زیادہ تعلیمی پروگرام پیش کیے جانے لگے۔



1966 میں کرثی درشن کے نام سے کسانوں کے لیے کاشت کاری کے موضوع پر ٹی وی پروگرام کی شروعات ہوئی جس میں کسانوں کو زراعت سے متعلق معلومات فراہم کرائی جاتی تھیں۔

حالیہ برسوں میں جب ڈھینٹل ٹیکنالوجی کی طرف پیش قدمی ہوئی تو حکومت ہند نے آئی سی ٹی کی مدد سے سوئم پر بھاکے پلیٹ فارم سے 32 چینلوں پر مشتمل تعلیمی نشریات کی شروعات کی اور تدریس و آموزش کو ایک نئی جہت عطا کی۔

4.4.1 تعلیمی ٹیلی ویژن پروگرام کے طریقہ کار اور اقسام

ٹیلی ویژن میں تدریس و اکتساب کے لیے بعثتی امکانی صلاحیت ہے وہ کسی اور میڈیم میں نہیں ہے لیکن اس کا جتنا استعمال ہونا چاہیے تھا، نہیں ہو سکا ہے۔ اس میڈیم کی اہمیت آج بھی برقرار ہے۔

❖ اسماڑ ٹیلی ویژن

اسماڑ ٹیلی ویژن ایک انوکھی اور نئی پہلو ہے۔ ٹیلی ویژن بنانے والی بڑی بڑی کمپنیوں نے ٹیلی ویژن لکنا لو جی کو بھی اینڈرائیڈ (Android) سافت ویز سے جوڑ دیا ہے اور ٹیلی ویژن سیٹ کمپیوٹر اسکرین کی طرح استعمال ہونے لگا ہے جس کو اسماڑ ٹیلی ویژن یا انٹرنیٹ ٹیلی ویژن کہتے ہیں۔ اس میں مزید پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ اس طرح ٹیلی ویژن سیٹ راست طور پر کسی بھی انٹرنیٹ نیٹ ورک یا براہ راست کسی لیپ تاپ یا اسماڑ موبائل فون سے بھی جڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہر وہ تدریسی عمل جو موبائل اور کمپیوٹر کے ذریعہ ممکن ہے، وہ آج اسماڑ ٹیلی ویژن کے ذریعہ بھی پیش کیا جاسکتا ہے اور دیکھا جاسکتا ہے۔

ٹیلی ویژن سے دو طرح سے پروگرام ٹیلی کاست ہوتے ہیں۔ ایک راست ٹیلی کاست اور دوسرا ریکارڈ شدہ ٹیلی کاست۔

❖ راست ٹیلی کاست (Live Telecast)

راست ٹیلی کاست کا مطلب یہ ہے کہ ایک استاد کسی اسموڈیو سے کسی بھی مضمون پر اپنا لکچر پیش کرتا ہے اور یہ پروگرام راست طور پر طلباء ناظرین تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس میں تحریری معاودو پیش کش کے لحاظ سے تیاری کی خاص ضرورت ہوتی ہے تاکہ راست نشریہ یا Live Telecast کے وقت غلطی کام کم سے کم امکان رہے۔ یہی صورت میں ممکن ہے جب اس ادارے میں نشريات کی ساری سہولیات موجود ہوں اور اس کے ناظرین یا طلباء وہ خاص گروپ جس کے لیے وہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، کے پاس بھی اس پروگرام کو دیکھنے کی سہولیات موجود ہوں۔

❖ ویڈیو کانفرننس (Video Conferencing)

ویڈیو کانفرننس بھی راست ٹیلی کاست کے زمرے میں آتا ہے۔ آج کل اس کا استعمال ٹیلی ویژن سے زیادہ کمپیوٹر پر میں تدریس میں ہو رہا ہے۔ یوں تو اس کا رواج ہمارے ملک میں زیادہ نہیں ہے لیکن جب خاص قسم کے پروگرام یا عام تعلیمی پروگرام یا حالات حاضرہ سے متعلق عوامی آگہی کے پروگرام یا کوئی بڑی شخصیت طبا کو خطاب کر رہی ہو تو ایسی صورت میں راست نشریہ بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس میں طلباء بھی اپنے کورسیز سے متعلق سوالات پوچھ سکتے ہیں۔

❖ ریکارڈ شدہ نشريات (Recorded Telecast)

تعلیمی پروگراموں میں سب سے زیادہ استعمال ریکارڈ شدہ نشريات کا ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی

ریکارڈنگ مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ کی جاتی ہے۔ کسی بھی سبق کو ریکارڈ کرنے سے قبل متعلقہ مضمون یا موضوع کا استاد پہلے اسکرپٹ لکھتا ہے، پھر پروگرام کے پروڈیوسر سے ویژوال پیش کش پر مشورہ کرتا ہے۔ اس میں گرافس اور انیمیشن (Animation) کے ذریعے اسے بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔

♦ فوپروگرام کی تیاری

ٹیلی ویژن پروگراموں کی تیاری میں منصوبہ بندی، محنت اور وقت پر مناسب چیزوں کے بروقت استعمال کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر پروگرام کے لیے ایک اسکرپٹ تیار کی جاتی ہے۔ نیچے تعلیمی پروگراموں کی اسکرپٹ نگاری کا طریقہ کارہ تیار گیا ہے۔

» تعلیمی ٹیلی ویژن پروگرام کے لیے اسکرپٹ نگاری

اسکرپٹ نگاری ایک فن ہے۔ اس کے لیے یہ تکنیک معلومات ضروری ہے۔ تعلیمی اسماق کی اسکرپٹ کا انداز تحریر اور ترتیب عام اسکرپٹ سے مختلف ہوتی ہے۔ جس طرح کسی کہانی یا فلم کی اسکرپٹ کسی مقام (Location) کو خیال میں رکھ کر لکھی جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک تعلیمی اسکرپٹ کرہ جماعت کو سامنہ رکھ کر لکھی جاتی ہے۔

تعلیمی اسکرپٹ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اس میں مواد کو انوکھے اور نئے انداز میں لکھا جائے، اس میں وضاحت ہو، کسی قسم کی مہم بات اس میں نہ ہو۔ ابتداء سے انتہائیک اس میں ربط باقی رہے۔ کڑی سے کڑی جوڑتے ہوئے سبق کو آگے بڑھایا جائے۔ بات چیت کے انداز میں معلومات فراہم کی جائے اور اہم چیز یہ ہے کہ اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے طلباء پناہیت محسوس کریں۔

یہ تکنیک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں آواز اور تصویر کی مکمل ہم آہنگی اور اس کی ترتیب ضروری ہے۔ پہلے کسی سبق کا تعارف ہو، پھر اس کا تفصیلی بیان ہو اور یہ اپنے اختتام تک پہنچے۔ تعارف اس انداز میں پیش کیا جائے کہ سبق کی تدریس کے دوران استاد مختلف طریقوں سے موضوع کی اس طرح وضاحت کرے کہ وہ طلباء کے ذہن نشین ہو جائے۔ سبق میں دلچسپی پیدا ہو جائے اور سبق کے دوران یہ دلچسپی برقرار رہے۔

تعلیمی ٹیلی ویژن پروگراموں کی نوعیت اپنی تکنیک کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ کبھی یہ پھر طریقہ کارے کام لیا جاتا ہے، کبھی مظاہراتی لکھ ہوتا ہے اور کبھی مباحثہ کے طریقے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ذیل میں ان طریقہ کارے کے بارے میں مختصر لفظوں کی جارہی ہے۔

» خالص لیکچر (Straight Lecture)

خالص لیکچر میں صرف ایک شخص بات کرتا ہے۔ اس لیے یہ تکنیک کے لحاظ سے آسان فارمیٹ خیال کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں عام طور پر استاد و طریقہ سے اپنا لیکچر پیش کرتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ فنی طور پر کیمرے کے سامنے برجستہ پورے سبق کو فلم بند کر دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب اسکرپٹ تیار ہو جائے تو اس کو پاورپوینٹ میں تبدیل کر کے اسٹوڈیو میں ٹیلی پروڈیکٹر کی مدد سے سبق کو پیش کر دیا جائے۔

» مظاہری کچھ (Demonstrative Lecture)

مظاہری کچھ کو سمعی و بصری سبق کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کاری یہ ہوتا ہے کہ استاد اپنے سبق کے دوران مختلف طرح کے تدریسی وسائل کا استعمال کرے۔ جن میں اسارت بورڈ، پاور پوینٹ، اگر کوئی سامنی مضمون ہو تو سامنی تدریس کے مختلف آلات، مختلف کیمیاولی چیزوں کی آمیزش وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ تعلیمی اس باق کے لیے یہ فارمیٹ زیادہ مناسب ہوتا ہے۔

» مباحثہ (Panel Discussion)

تعلیمی پروگرام میں مباحثہ کا طریقہ کاری ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس میں دو یا دو سے زیادہ افراد بحث میں شریک ہوتے ہیں۔ پروگرام کا ایک ناظم (Moderator) ہوتا ہے جو بحث کا آغاز کرتا ہے اور شرکا کا تعارف کرتا ہے۔ وہ شرکا کو موضوع سے بھلکنے نہیں دیتا۔ پروڈیوسر اور استاد، دونوں مل کر اس طرح منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ موضوع سے متعلق تمام باتیں واضح ہوئی چلی جائیں۔ مضمون سے متعلق تحقیق، کامل منصوبہ بندی اور اچھی نظم اس طرح کے پروگراموں کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

» انٹرو یو

انٹرو یو بھی تعلیمی پروگرام کو پیش کرنے کا ایک فارمیٹ ہے۔ یہ اسٹوڈیو یا باہر کی جگہ پر ریکارڈ کیا جاسکتا ہے۔ اس فارمیٹ میں دو افراد ہوتے ہیں۔ انٹرو یو لینے والا پہلے موضوع سے متعارف کرتا ہے اور آخر میں پوری گفتگو کا خلاصہ پیش کرتا ہے۔

» دستاویزی سبق (Documentary Lesson)

دستاویزی سبق تعلیمی میڈیا میں استعمال ہونے والا پرانا فارمیٹ ہے۔ بی بی سی نے اپنے تعلیمی پروگرام کی شروعات اسی فارمیٹ سے کی تھی۔ سامنی اور ماحولیاتی مضامین کے لیے یہ نہایت موزوں اور مناسب ہے۔ اس میں ویژوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جس میں سامنی لیب، ماحولیاتی مسائل وغیرہ کو موثر طریقے سے پیش کیا جاسکتا ہے۔

4.5 تعلیم و تدریس میں کمپیوٹر

کمپیوٹر کی وجہ سے ملی میڈیا جیسا طاقت و روسیدہ دستیاب ہے جو تدریس و آموزش میں بے حد معاون ہے۔ اس لیے یہ کہا جانے لگا ہے کہ تعلیم آپ کی انگلیوں کی ہمیشہ پر۔ کمپیوٹر کا استعمال روایتی اور فاصلاتی دونوں طرز تعلیم کے لیے مختلف طریقے سے ہوتا ہے۔ اس کا استعمال مندرجہ ذیل کے لیے کیا جاتا ہے۔

- تدریس، آموزش اور اندازہ قدر
- تربیت و سمت سازی
- زبان سیکھنا اور سکھانا

علم ریاضی سے لے کر علم موبائل تک تقریباً تمام مضامین کی تدریس میں کمپیوٹر سے مددی جاسکتی ہے۔ فاصلاتی تعلیم میں کمپیوٹر کو تدریس کے لیے مؤثر طریقے سے استعمال کیا جاسکتا ہے اور بہت ہی کم خرچ میں طلبہ کی شیرتعداد تک تدریسی مواد پہنچایا جاسکتا ہے۔ جدید سافٹ ویرے نے تو ایک معلم کی شکل اختیار کر لی ہے جو قدم قدم پر طالب علم کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے تدریس اور اندازہ قدر کامل بہت آسان ہو گیا ہے۔ کمپیوٹرنہ صرف یہ کہ اچھائی تدریس کے لیے موزوں ہے بلکہ انفرادی تدریس کے لیے بھی مناسب ہے۔ طالب علم آزادی کے ساتھ بہت ہی سخیجی سے ایک سبق کو بار بار سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے اور پھر اس کو ذہن نشین کر سکتا ہے۔

کمپیوٹر کا استعمال تدریس و آموزش کے لیے جتنا مفید ہے اتنا ہی تربیت و سمت سازی کے لیے بھی معاون ہے۔ تربیت یا زینگ کا مقصد کسی پیشے سے تعلق رکھنے والے شخص میں نفسیاتی اور حرکیاتی لحاظ سے اس میں مہارت اور چیلگی پیدا کرتا ہے۔ آج ہر عمر اور مضامین کے مذکور سافٹ ویرے تیار کیے جاتے ہیں اور تربیت کے دوران نظریاتی مباحث کے بعد شرکا سے عملی طور پر ان کا استعمال کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ان کی کارکردگی کے بعد ان کے عملی تجربے کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ پھر ان کی خوبیوں یا کمیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے تاکہ ان کی مہارت میں اضافہ ہو سکے اور وہ نئے نئے موضوعات اور سینما اور جی کے میدان میں ہونے والی پیش رفت سے واقف ہو سکیں۔ تدریس و آموزش کے لیے کمپیوٹر کا استعمال جن مختلف پروگراموں کے تحت کیا گیا ان میں کمپیوٹر معاون آموزش کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے متعلق مختصر معلومات پیش کی جا رہی ہے۔

❖ کمپیوٹر معاون آموزش (Computer Assisted Learning(CAL))

اس قسم کی آموزش میں کمپیوٹر کو ایک مشین کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کمپیوٹر ایک تدریسی آلہ بن جاتا ہے اور اس کے ذریعے خاص قسم کے اس باقیا مضمایں منصوبہ بند طریقے سے پیش کیے جاتے ہیں۔ طالب علم خواہ کمرہ جماعت میں آموزش کے لیے موجود ہوں یا تھہائی میں آموزش کے لیے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوں۔ کمپیوٹر اس کی آموزش میں معاونت کرتا ہے۔ سبق کی منصوبہ بندی کرتے وقت یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ یہ کس گروپ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ CAL کی وجہ سے خصوصی صلاحیت کے حامل بچوں کی شرح خواندگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ کمپیوٹر معاون آموزش میں طلباء کو مکمل خود مختاری حاصل ہوتی ہے اور وہ اپنی پسند، فرصت اور صلاحیت کے مطابق آموزش جاری رکھ سکتے ہیں۔

4.5.1 موک (MOOC)- ایک جدید تدریسی پلیٹ فارم

موک (MOOC) (Massive Open Online Course - MOOC) ویب پر مبنی حصول تعلیم کا عالمی سطح پر ایسا پلیٹ فارم ہے جو لاتعداد طلباء کو دنیا کی اچھی سے اچھی درس گاہوں میں آموزش کے موقع فراہم کرتا ہے۔ اس پلیٹ فارم نے سی بی سی ایس (Choice Based Credit System) نظریہ تدریس کے لیے راستہ آسان بنادیا ہے اور آج کوئی بھی طالب علم ملک کے کسی بھی ادارے سے کوئی خاص مضمون مکمل کر کے اپنے ادارے سے جاری ہونے والے

فائل رولٹ میں اس کا کریڈٹ شامل کرا سکتا ہے۔ اس کی شروعات 2008ء میں ہی ہوئی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے میدان میں 2012ء میں اسے مقبولیت ملی۔ دنیا بھر میں جن اداروں نے موک کے پلیٹ فارم سے کورسیز کی شروعات کی ہے ان کا طریقہ تدریس یہ ہے کہ وہ مطبوعہ تعلیمی مواد اور سمیٰ و بصری (audio-visual) اسماق کے ساتھ ساتھ طلباء اساتذہ کے درمیان تبادلہ خیال کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں اور منصوبہ بند طریقے سے کھلی بحث کا فورم بھی پیش کرتے ہیں۔

موک (MOOC) کے طریقہ کارکوس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ ایک ایسا آن لائن پلیٹ فارم ہے جس اس طلباء اساتذہ تدریس و آموزش کے لیے مواد اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ مواد آسانی سے بین الاقوامی سطح پر دستیاب ہوتا ہے۔ یہاں طلباء کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ لیپکرنیں یا تحریری متن کی شکل میں موجود تعلیمی مواد کوڈاون لوڈ کریں یا پھر اس مواد میں اپنی ضروریات کے لحاظ سے ترمیم و اضافہ کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے اس خصوصی گروپ میں اپنی رائے یا شکوک و شبہات کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ازالہ بھی کر سکتے ہیں۔ درحقیقت نیت ورکگ کی وجہ سے یہ کھلی بحث اور تبادلہ خیال ایک مجازی کلاس روم (Virtual Classroom) کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

4.5.2 آن لائن لرنگ

اکثر آن لائن لرنگ کے لیے ای لرنگ کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس میں کمپیوٹر، ٹبلٹ، اسارت فون کو انتہائی کی مدد سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سی کلاس روم کا تبادل ہے جو وقت، مقام اور خطے کی قید سے آزاد ہے۔ آج انتہائی کے ویلے سے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پیشہ و رانہ اور غیر پیشہ و رانہ ہر طرح کے آن لائن کورس موجود ہیں۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں بیخاطاب علم اپنی ضرورت کے مطابق کسی بھی کورس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ آن لائن لرنگ کی زیادہ تر سائنس مفت مہینیں ہیں۔ البتہ حکومت ہند کی جانب سے اسکوں کالج اور یونیورسٹی کی سطح کے طالب علموں کے لیے مختلف طرح کے پلیٹ فارم موجود ہیں جن سے بڑی تعداد میں طلباء مستفید ہو رہے ہیں۔ حکومت ہند کی جانب سے تیار کردہ سائنس میں ای پاٹھشاala، سوٹم اسی مقصد سے بنائے گئے ہیں۔ این سی اسی آرٹی کے پورٹل پر بھی اس طرح کی سہولت موجود ہے۔

4.5.3 سوٹم (Swayam)

سوٹم (Study Webs of Active-Learning for Young Aspiring Minds) کے آغاز کے ضمن میں تین اہم تعلیمی اصولوں، سب کی رسمائی، مساوات اور معیاری تعلیم کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اس کا اولین مقصد حصولیابی کے لحاظ سے ہر علاقے، طبقے اور سماجی و معاشی پس منظر سے تعلق رکھنے والے طلباء کو بہترین تدریس و آموزش کے طریقہ کا رہے ہم آہنگ کرنا ہے۔ خصوصاً ایسے طلباء کو جو ابھی تک کسی وجہ سے اس ڈیجیٹل دنیا کی انتہائی پیش رفت سے ناواقف ہیں یا وہ کسی وجہ سے تعلیم و تربیت کے مرکزی و حارے میں شامل نہیں بنا سکے ہیں ایسے تمام طلباء کو عالمی سطح کے اس تدریسی پلیٹ فارم میں شامل کرنا اس کا بنیادی مقصد ہے۔

اس وقت سوم کے پلیٹ فارم میں تقریباً دہزار سے زیادہ کورسیز موجود ہیں۔ ان میں سے دوسو کورسیز ایسے مضماین یا شعبوں سے متعلق ہیں جن میں کوئی بھی طالب علم اندر آج کر سکتا ہے۔ یہ تمام کورسیز آڈیو ویژوال، عمده اور مناسب، مثالوں سے آرائتے تحقیق مطالعات پر بنی ہیں۔ ان کورسیز کی تیاری مضمون اور منصوبہ بذریعے سے کی جاتی ہے۔ ان کی پیش کش اور تیاری میں ملک کے انفارمیشن ٹکنالوژی کے تمام شعبوں کی محنت اور سیرچ شامل ہے۔ نوین جماعت سے پوسٹ گریجویشن تک کے تمام کورسیز اس میں شامل ہیں۔ ان کورسیز کی سب سے اہم اور انوکھی خوبی یہ ہے کہ یہ زماں و مکان اور عمر کی قید سے بالکل آزاد ہیں یعنی کوئی بھی فرد، کسی بھی مقام سے اور کوئی بھی ان کورسوں میں داخلہ لے سکتا ہے اور گھر بیٹھے محض اپنی تعلیم مکمل کر سکتا ہے۔ یہ تمام کورسیز باہم تبادلہ خیال اور کھلے مباحث پر مشتمل ہیں جنہیں ملک کے ہزاروں اساتذہ نے بڑی محنت اور باریک یعنی سے تیار کیا ہے۔ یہ کورسیز بلا کسی فیس کے تمام ہندوستانی شہریوں کے لیے سوم کے پلیٹ فارم پر مفت دستیاب ہیں۔

ان کورسیز کو معیاری بنائے رکھنے اور طلباء تک اس کی آسانی سے رسائی کے لیے سات اداروں کو قومی کوارڈنیٹریس کی حیثیت سے منتخب کیا گیا ہے۔ این آئی آرٹی یعنی نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ اور این آئی او ایمیس یعنی نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کو مشترکہ طور پر اسکولی تعلیم کے کورسیز کی تیاری اور ان پر عمل درآمد کی ذمہ داری دی گئی ہے۔

4.5.4 سوم پر بھا (Swayam Prabha)

پروگراموں کو ملک بھر میں طلباء تک پہنچانے کے لیے حکومت ہند نے سوم پر بھا کے نام سے بتیں چینلوں پر مشتمل تعلیمی نشریات شروع کی ہیں۔ ڈی۔ٹی۔ ایچ (Direct to Home Service) کی مدد سے یہ تمام چینل چینیں گھنٹے معیاری تعلیمی اسپاٹ ٹیلی کا ساث کرتے ہیں۔ نشریات کا نظام الوقات یہ ہے کہ روزانہ چار گھنٹے نئے پروگرام ٹیلی کا ساث کیے جاتے ہیں۔ پھر انہیں پروگراموں کو چینیں گھنٹے کے دوران کی بار بکھایا جاتا ہے تاکہ ہر طالب علم اپنی سہولت کے مطابق ان پروگراموں کو دیکھ سکے۔

4.5.5 ای۔ پاٹھشا

ڈیجیٹل انڈیا تحریک کے تحت تدریس و آموزش کو بڑے پیمانے پر انفارمیشن ٹکنالوژی سے وابستہ کرنے پر زور دیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کی رسائی ہو سکے۔ اس میں نشریاتی اور غیر نشریاتی دونوں طرح کے میڈیم استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ای پاٹھشا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو حکومت ہند اور نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ کی ایک مشترکہ کوشش ہے۔ اس کا بنیادی مقصد کلاس میں ہر سطح کے بچوں کے لیے ڈیجیٹل مواد تیار کرنا ہے۔ جس میں متنی مواد، آڈیو ویڈیو اسپاٹ، معیاری میگزین و رسانے اور دیگر تحریری اور غیر تحریری مواد کی تیزی و اشاعت وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تمام مواد جس سے طالب علم، اساتذہ، والدین یا عام آدمی بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں سب کے لیے بلا معافی پاٹھشا لپلیٹ فارم پر موجود ہے۔

4.5.6 ای لرنگ

برقی وسائل (Electronic Medium) کے ذریعے مدرس و آموزش کو ای لرنگ کہتے ہیں۔ برقی وسائل میں کمپیوٹر، ٹبلیٹ، موبائل یا اسماਰٹ فون اہم ہیں۔ ای لرنگ کے لیے کمپیوٹر کو انٹرنیٹ کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے سی ڈی، ڈی وی اور ایکسل ہارڈ ڈسک (External hard disk) اور ملٹی مدیا جیسے آواز، موسیقی، انیمیشن، گرافیکس کی مدد سے تربیت اور تعلیم و مدرس بھی ای لرنگ کے زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن ان ذرائع کو جب انٹرنیٹ کی مدد سے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ ای لرنگ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مختلف تکنیکی ذرائع یعنی روایتی کلاس کے ساتھ تکنیک کے استعمال سے ہم آمیز ہو سکتا ہے۔ انٹرنیٹ کی اسی افادیت کے پیش نظر درس و مدرس و تربیت کے لیے اس ویلے کو اپانے کی کامیاب کوششیں ہوتی ہیں۔ آج علم کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جہاں اس ویلے (Medium) کو نہیں اپنایا جاتا ہو۔